

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ إِلَيْكُمْ مَرِيضٌ مِنْكُمْ وَأَمَامَكُمْ مِنْكُمْ مَنْتَقِلُ عَلَيْهِ

اسلام میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کا تصور

ام مہدی سے متعلق اہلسنت وجماعت کے عقیدوں کا مناسب سیرت و تعلیمی معاملات
ظہور مہدیؑ کی حیثیتوں میں ام مہدی سے متعلق احادیث و افعال کی تفصیل میں،
تفکرین و درمیان ہدایت اور بڑھاپا کی آواز و نوازی

از افسانہ

حضرت مولانا رفیع محمد یوسف خان حسینی
استاذ جامعہ عربیہ اسلامیہ

مؤلف

مولانا رفیع محمد یوسف خان
فاضل جامعہ عربیہ اسلامیہ

يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةً يَحْتَمِي الْمَالَ حَيْثَا وَلَا يَعْذُهُ عَدَا مُسْلِمٍ شَرِيفٍ
كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ الْبُرُوقُ فِيكُمْ وَأَمَامَكُمْ مِنْكُمْ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ

اسلام میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کا تصور

امام مہدی سے متعلق اہلسنت وجماعت کا عقیدہ، نام و نسب، سیرت و خلیفہ، علامات
ظہور مہدی، صحیحین میں امام مہدی سے متعلق احادیث و اقصائی تناظر میں،
منکرین و مدعیان مہدویت، اکابر علماء کی آراء و فتاویٰ

از افتاد
حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب مدظلہ
استاذ جامعہ بیت جاہلہ اشرفیہ

مؤلف
مولانا حافظ محمد مظفر اقبال
قاسم جامعہ اشرفیہ

بیت العلوم

۲۰۔ نایبہ روڈ، پرائی انارکلی لاہور۔ فون: ۳۵۲۱۱۳

﴿ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں ﴾

نام کتاب اسلام میں امام مہدی کا تصور
مؤلف حافظ محمد ظفر اقبال (فاضل جامعہ شریفہ لاہور)
افادات پروفیسر مولانا محمد یوسف خان صاحب
(استاذ الہدیٰ جامعہ شریفہ لاہور)
باجتہام محمد عالم اشرف
ناشر بیت العلوم - ۲۰ روڈ، چوک پرانی اتارگی، لاہور
فون: ۷۳۵۳۸۳

﴿ ملنے کے پتے ﴾

بیت العلوم = ۲۰ روڈ، چوک پرانی اتارگی، لاہور
ادارہ اسلامیات = ۱۱۹۰ اتارگی، لاہور
ادارہ اسلامیات = موہن روڈ چوک اردو بازار کراچی
دارالاشاعت = اردو بازار کراچی نمبر ۱
بیت القرآن = اردو بازار کراچی نمبر ۱
بیت الکتب = گلشن اقبال، کراچی
ادارۃ المعارف = ڈاک خانہ دارالعلوم کورنگی کراچی نمبر ۱۳
مکتبہ دارالعلوم = جامعہ دارالعلوم کورنگی کراچی نمبر ۱۳
مکتبہ سید احمد شہید = الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور
مکتبہ رحمانیہ = غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۱۵	تقریظ (حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب)	۱
۱۶	کلماتِ بابرکات (حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب)	۲
۱۷	تقریظ (حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب)	۳
۱۸	پیش لفظ (حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب)	۴
۲۱	عرض مؤلف	۵
۲۴	مقدمہ کتاب (حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب)	۶
	باب اول ﴿عقیدہ ظہور مہدی﴾	
۳۰	وہ آیات جن میں امام مہدیؑ کی طرف اشارہ ہے	۷
۳۳	ظہور مہدیؑ اہلسنت والجماعت کا عقیدہ	۸
۳۵	ظہور مہدیؑ کی قطعیت	۹
۳۶	امام مہدی کے لیے ”رضی اللہ عنہ“ کا خطاب	۱۰
۳۶	حضرت مہدیؑ کے لیے ”امام“ کا خطاب	۱۱
۳۷	حضرت امام مہدیؑ کے بارے میں اہل حق کا فتویٰ	۱۲
۳۸	امام مہدیؑ سے متعلق روایات کے ادوی صحابہ کرامؓ	۱۳
۴۳	علماء کرام کی احادیث مہدی کی بابت آراء	۱۴
۴۷	وہ کتابیں جن میں ضمناً امام مہدیؑ کا تذکرہ ہے	۱۵
۴۸	امام مہدیؑ کے بارے میں مستقل تصانیف	۱۶

۵۱	امام مہدیؑ افضل یا شیخین؟	۱۷
۵۲	علامہ سیوطیؒ کا جواب	۱۸
۵۳	علامہ ابن حجر عسقلانیؒ کا جواب	۱۹
۵۴	علامہ سید محمد برزنجیؒ کا جواب	۲۰
	باب دوم	
	﴿ حضرت امام مہدیؑ کا نام و نسب ﴾	
۵۹	حضرت امام مہدیؑ کا نام	۲۱
۶۳	حضرت امام مہدیؑ کا نسب	۲۲
۶۵	لفظ ”عترت“ کی تحقیق	۲۳
۶۷	حضرت امام مہدیؑ حسنی ہوں گے یا حسینی؟	۲۴
۷۰	ایک عجیب نکتہ	۲۵
۷۱	کیا حضرت امام مہدیؑ، حضرت عباسؑ کی اولاد میں سے؟	۲۶
۷۳	حضرت امام مہدیؑ کا لقب اور کنیت	۲۷
۷۶	حضرت امام مہدیؑ کی جائے پیدائش	۲۸
۷۷	حضرت امام مہدیؑ کی سیرت	۲۹
۷۷	امام مہدیؑ کی قیادت	۳۰
۷۸	امام مہدیؑ کا زمانہ	۳۱
۷۹	امام مہدیؑ کی سخاوت	۳۲
۸۱	حضرت امام مہدیؑ کی سیرت و اخلاق کریمانہ کا اجمالی نقشہ	۳۳
۸۳	حضرت امام مہدیؑ کا حلیہ مبارک	۳۴
۸۶	حضرت امام مہدیؑ کی خلافت، علیٰ منہاج النبوة ہوگی	۳۵

۸۷	تثبیہ	۳۶
	باب سوم ظہور مہدیؑ کی علامات ﴿﴾	
۹۱	علامت نمبر ۱	۳۷
۹۲	علامت نمبر ۲	۳۸
۹۳	علامت نمبر ۳-۴	۳۹
۹۴	علامت نمبر ۵ مع فائدہ	۴۰
۹۵	علامت نمبر ۶	۴۱
۹۶	علامت نمبر ۷	۴۲
۹۷	علامت نمبر ۸	۴۳
۹۸	علامت نمبر ۹-۱۱	۴۴
۹۹	علامت نمبر ۱۲-۱۳	۴۵
۱۰۰	علامت نمبر ۱۵-۱۶	۴۶
۱۰۱	علامت نمبر ۱۷-۱۸	۴۷
۱۰۲	علامت نمبر ۱۹	۴۸
۱۰۵	علامت نمبر ۲۰-۲۳	۴۹
۱۰۶	علامت نمبر ۲۳-۲۷	۵۰
۱۰۶	فائدہ	۵۱
۱۰۷	علامت نمبر ۲۸	۵۲
۱۰۸	علامت نمبر ۲۹	۵۳
۱۰۹	علامت نمبر ۳۰	۵۴

باب چہارم ﴿ظہور مہدیؑ سے قبل کے واقعات﴾		
۱۱۳	خروج سفیانی	۵۵
۱۱۴	سفیانی کا نام	۵۶
۱۱۴	سفیانی کی حکومت اور مدت حکومت	۵۷
۱۱۶	فتنہ سفیانی کی تختی	۵۸
۱۱۷	خروج سفیانی کی کیفیت	۵۹
۱۱۹	تنبیہ (لزوم استحقاقی، لزوم تفضیلی)	۶۰
۱۲۰	سفیانی کا جھنڈا	۶۱
۱۲۱	خروج سفیانی کا اجمالی نقشہ	۶۲
۱۲۲	فائدہ	۶۳
باب پنجم ﴿ظہور مہدیؑ ترتیب زمانی کے ساتھ واقعات کے تناظر میں﴾		
۱۲۷	دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا	۶۴
۱۲۸	سفیانی کی اربع اور اصہب وغیرہ سے جنگ	۶۵
۱۲۹	سفیانی کی ترک اور روم سے جنگ	۶۶
۱۲۹	سفیانی کا فساد برپا کرنا	۶۷
۱۳۰	امام مہدیؑ کا مکہ میں روپوش ہونا	۶۸
۱۳۰	گورنر مکہ کا دھوکہ دینا	۶۹

۱۳۱	حج کی ادائیگی کا امیر کے بغیر ہونا	۷۰
۱۳۱	سات بڑے بڑے علماء کا امام مہدیؑ کو تلاش کرنا	۷۱
۱۳۱	فائدہ	۷۲
۱۳۲	امام مہدیؑ کا حجر اسود کے پاس ملنا	۷۳
۱۳۳	فائدہ	۷۴
۱۳۳	امام مہدیؑ کا بیعت لینا	۷۵
۱۳۳	امام مہدیؑ کا پہلا خطبہ	۷۶
۱۳۴	امام مہدیؑ کے اعوان و انصار	۷۷
۱۳۵	ابدال، عصاب اور نجباء سے کون لوگ مراد ہیں؟	۷۸
۱۳۸	مقام بیداء میں لشکر سفیانی کا دھننا	۷۹
۱۳۸	اہل خراسان پر کیا ہتی؟	۸۰
۱۳۹	خراسان سے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ روانگی	۸۱
۱۴۰	سفیانی کے ساتھ جنگیں	۸۲
۱۴۰	کلمہ حق کہنے کی سزا	۸۳
۱۴۱	امام مہدیؑ کی کرامت	۸۴
۱۴۱	سفیانی کا بیعت کرنا	۸۵
۱۴۲	عہد شکنی	۸۶
۱۴۳	سفیانی کا قتل	۸۷
۱۴۳	مال غنیمت کی تقسیم	۸۸
۱۴۴	استحکام اسلام	۸۹
۱۴۴	فائدہ	۹۰
۱۴۴	جنگ عظیم	۹۱

۱۳۵	۹۶۰۰۰۰۰ فوج کا روانہ ہونا	۹۲
۱۳۶	رومیوں کا مطالبہ اور لشکر اسلام کے تین حصے	۹۳
۱۳۶	شام پر رومیوں کا قبضہ	۹۴
۱۳۸	رومیوں کی شکست	۹۵
۱۳۹	باقی ماندہ لشکر کے تین حصے	۹۶
۱۵۰	جریل و میکائل کا فرشتوں کی فوج لے کر اترنا	۹۷
۱۵۰	رومیوں کی دھوکہ دہی	۹۸
۱۵۱	خلیج کا محاصرہ	۹۹
۱۵۲	خروج و جہال	۱۰۰
۱۵۲	جنگ خلیج کی تفصیل ایک دوسری روایت سے	۱۰۱
۱۵۳	بیت المقدس کا خزانہ	۱۰۲
۱۵۶	نعرہ تکبیر سے شہر فتح ہو جائے گا	۱۰۳
۱۵۷	پوری دنیا کی حکمرانی	۱۰۴
۱۵۷	جنگ خلیج کے بعد کیا ہوگا؟	۱۰۵
۱۶۱	حضرت امام مہدیؑ کی وفات اور ان کی مدت حکومت	۱۰۶
۱۶۲	ظہور کے وقت امام مہدیؑ کی عمر	۱۰۷
۱۶۳	امام مہدیؑ کا انتقال طبعی ہوگا	۱۰۸
	باب ششم	
	﴿احادیث و آثار متعلقہ بالامام المہدیؑ﴾	
۱۶۷	صحیحین کی وہ روایات جو امام مہدیؑ سے متعلق ہیں	۱۰۹
۱۶۷	روایت نمبر ۱	۱۱۰

۱۷۱	روایت نمبر: ۲	۱۱۱
۱۷۲	روایت نمبر: ۳	۱۱۲
۱۷۳	روایت نمبر: ۴	۱۱۳
۱۷۵	فائدہ	۱۱۴
۱۷۶	روایت نمبر: ۵	۱۱۵
۱۷۷	فائدہ	۱۱۶
۱۷۷	تنبیہ	۱۱۷
۱۷۷	روایت نمبر: ۶	۱۱۸
۱۷۹	فائدہ	۱۱۹
۱۸۱	روایت نمبر: ۷	۱۲۰
۱۸۱	فائدہ	۱۲۱
۱۸۲	روایت نمبر: ۸	۱۲۲
۱۸۳	فائدہ	۱۲۳
۱۸۵	روایات صحابہ در بارہ امام مہدی علیہ الرضوان	۱۲۴
۱۸۵	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۲۵
۱۸۶	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۲۶
۱۸۶	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۲۷
۱۸۷	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۲۸
۱۸۸	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت	۱۲۹
۱۸۸	حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی روایت	۱۳۰
۱۸۹	حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی روایت	۱۳۱
۱۹۰	حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایت	۱۳۲

۱۹۰	حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت	۱۳۳
۱۹۲	حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۴
۱۹۲	حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت	۱۳۵
۱۹۳	حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۶
۱۹۳	حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۷
۱۹۳	حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۸
۱۹۴	حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۳۹
۱۹۴	حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۴۰
۱۹۵	حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت	۱۴۱
۱۹۵	حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۴۲
۱۹۶	حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۴۳
۱۹۷	حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت	۱۴۴
۱۹۸	حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی روایت	۱۴۵
۱۹۸	حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۴۶
۱۹۹	حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت	۱۴۷
۲۰۰	حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۴۸
۲۰۰	حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۴۹
۲۰۱	حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۵۰
۲۰۲	حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۵۱
۲۰۲	حضرت عمرو بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۵۲
۲۰۳	حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۵۳
۲۰۳	حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت	۱۵۴

تقریظ

جامع المعقول والمنقول، استاذ العلماء والفضلاء، محقق زماں، مقرر شیریں بیاں

حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب مدظلہ العالی۔

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد!

حضرت علی مرضی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے اور چھ ماہ بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تو ”المشاہدہ بقدر المجاہدہ“ کے تحت بارگاہ خداوندی سے ان کو یہ انعام دیا گیا کہ آخر زمانے میں ان کی اولاد میں سے ایک جلیل القدر خلیفہ ہونا مقرر فرما دیا جس کو دنیا ”مہدی“ کے نام سے جانتی ہے۔

عربی زبان میں اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن ان میں سے اکثر نادر و نایاب ہیں اور جو دستیاب ہیں، ان سے اردو دان طبقہ مستفید نہیں ہو سکتا نیز اس موضوع پر اردو میں ایک آدھ کتاب ہی کا حوالہ ملتا ہے جس میں مکمل تفصیلات نہ ملنے کی وجہ سے قاری تشنگی کا شکار رہتا ہے اس لحاظ سے عزیزم محمد ظفر سلمہ کی غالباً یہ پہلی کاوش ہے جو اس موضوع پر اہل سنت والجماعت کے عقائد کی آئینہ دار اور اس کی تفصیلات کو حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائیں اور عزیزم کو مزید تصنیفی خدمات سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔

آمین

عبدالرحمن اشرفی

خادم الحدیث جامعہ اشرفیہ مسلم ناؤن لاہور۔

۱۶، جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ

کلماتِ بابرکات

بحر العلوم، نمونہء اسلاف، رأس الاتقیاء
حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ادام اللہ بقاؤہ علینا

ہذہ المقالة من مولانا محمد ظفر اعز اللہ ایاہ، موجبات،
سالبات، رائعات، صادقات جزی اللہ ایاہ.

اخبار المقالة

موجبات، سالبات، صادقات	رائعات، مفرحات، یاقرب
فہمہا علمٌ لحق یا حیب	اسمعوا سمعاً قبولاً یا لیب
ماہیات، ثابتات، یارغیب	فاقرؤہا وانظروہا یاقرب

(نوٹ) راقم الحروف کی درخواست پر حضرت الاستاذ نے پہلے نثر میں مندرجہ بالا عبارت تحریر فرمائی تھی، بعد میں اشعار کے اندر اپنی تقریظ کو از خود ہی مختل فرمایا، اور باہمی مشورے سے یہ طے پایا کہ ان دونوں کو بطور یادگار زیر نظر مقالہ کا حصہ بنا دیا جائے۔

ذہن میں رہے کہ حضرت نے اس بات کی نشاندہی بھی فرمائی ہے کہ مذکورہ اشعار بحرزل تام کے وزن پر ہیں۔

تقریظ

استاذ العلماء، مقرر شیریں بیاں، نائب مہتمم جامعہ اشرفیہ
حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مدظلہ

عزیزم مولوی حافظ محمد ظفر سلمہ کا مقالہ کا مختلف مقامات سے معاینہ کیا دلی
خواہش پیدا ہوئی کہ یہ مقالہ اگر جلد از جلد طبع ہو جائے تو اس تحقیق اور ریسرچ سے بہت
سارے احباب کو نفع ہوگا۔

یہ مقالہ جو کہ اب پوری کتاب کی شکل میں تیار ہو چکا ہے اور جس میں تمام امور
کے حوالہ جات لکھے گئے ہیں اور پھر سلف صالحین کے اقوال اور احادیث مبارکہ سے ان کو
مزین کیا گیا ہے۔

میری دیانت دارانہ رائے ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقت پسندی کے ساتھ اس کا
مطالعہ کرے گا تو یہ بات بالکل عیاں ہو کر اس کے سامنے آجائے گی کہ سیدنا حضرت امام
مہدیؑ کی آمد حقیقت پر مبنی ہے اور اس سے انکار تعصب اور عناد کی وجہ سے ہی کیا جاسکتا
ہے۔

میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ میرے اس عزیز اور اس کے اساتذہ اور اس
کتاب کے ناشر کے لیے اس کتاب کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین

(حافظ) فضل الرحیم

خادم الطلاب جامعہ اشرفیہ لاہور

۱۰ جمادی الثانی ۱۴۲۵ھ

پیش لفظ

استاذ العلماء، مقرر شعلہ بیان، سرپرست و مربی من
حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب دامت برکاتہم
الحمد لله و کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد!
وجود مہدی، علامات مہدی اور عقیدہ ظہور مہدی

یہ وہ معرکتہ الآراء، اہم اور سنجیدہ موضوع ہے جس پر اردو ادب اور دینی لٹریچر
میں کوئی سنجیدہ اور اہم تحریر مکمل وضاحت و صراحت سے موجود نہیں، اگر ہے بھی تو وہ
خارجیت یا رافضیت کے زیر اثر افراط و تفریط کا شکار۔

راہ اعتدال پر گامزن رہتے ہوئے، مناظرانہ رنگ لیے بغیر اس موضوع پر اہل
سنت والجماعت کا موقف مکمل احتیاط اور دلائل و براہین سے آراستہ فی الحال دستیاب نہیں۔
ممکن ہے کہ کبھی اس موضوع پر مناظرانہ مبالغہ آرائی کے بغیر کچھ لکھا گیا ہو جو اب موجود
نہیں۔

اس موضوع کی سب سے اہم بات یہی ہے کہ اس میں راہ اعتدال اور مسلک
اکابر کو ہر آن پیش نظر رکھنا ہی اس موضوع سے انصاف کے تقاضے پورا کرتا ہے، ایک بال
برابر آگے پیچھے ہونا رافضیت کی اندھیر نگری میں گرنے یا خارجیت کے سنہری جال میں
پھنسنے کے مترادف ہے۔

زیر نظر مقالہ جو جامعہ اشرفیہ کے ہونہار اور ذی استعداد طالب علم حافظ مولوی
محمد ظفر سلمہ کی تحقیق و کاوش کا نتیجہ ہے، کئی اعتبار سے علم دوست اور صاحبان ذوق کے

لیے تسکین کا سامان لیے ہوئے ہے۔

(۱) ازاول تا آخر تحریر اپنے موضوع سے مکمل مربوط اور زنجیر کی کڑیوں کی طرح

جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔

(۲) وہ تمام کتب جن کے حوالے درج کیے گئے ہیں، ان کے تمام حوالہ جات اصل

کتابوں سے اخذ کردہ ہیں۔

(۳) سب سے اہم اور خاص بات یہ کہ پورے مقالے میں کہیں بھی مناظرے،

مجادلے اور مکارے کا رنگ نظر نہیں آتا جو میرے خیال میں ایک مشکل ترین

کام تھا جسے بخوبی انجام دیا گیا۔

(۴) ایک اور اہم ترین اور خاص بات یہ ہے کہ ملک کے مایہ ناز علمی مراکز اور دینی

مدارس کے تصدیق شدہ فتاویٰ جات منسلک ہونے سے اس مقالے کی اہمیت

دو چند ہو گئی ہے۔

(۵) اسی طرح وہ حضرات علماء کرام جن کی رائے اس مسئلے میں کچھ اختلافی پہلو لیے

ہوئے تھی، اس کو بطریق احسن فتاویٰ جات کی روشنی میں حل کیا گیا ہے۔

(۶) انداز انتہائی مرتب، مضبوط اور جامع ہے، طرزِ تحریر دلچسپ اور پرکشش ہے جس

کی وجہ سے یہ ثقیل اور مشکل موضوع بھی قاری کی توجہ باسانی حاصل کر لیتا ہے۔

بہر حال! یہ ایک عمدہ بلکہ عمدہ ترین کوشش و کاوش ہے جسے جتنا بھی سراہا جائے،

کم ہے اور خصوصی طور پر اس کوشش کے پس منظر میں استاذ العلماء حضرت مولانا پروفیسر

ڈاکٹر محمد یوسف خان صاحب مدظلہ استاذ الحدیث جامعہ اشرفیہ کی خصوصی توجہات اور

مہربانیاں ہیں جنہوں نے مقالہ نگار کو انتخاب موضوع سے اختتامِ تحریر تک اپنے قیمتی ترین

اوقات سے لمحات بابرکات عنایت فرمائے اور یوں یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا اور پھر

اکابرین علماء کرام کی تقریظات نے اس پر چار چاند لگا دیئے۔

اللہ تعالیٰ مقالہ نگار عزیزم میرے شاگرد رشید حافظ مولوی محمد ظفر سلمہ کو خوب خوب علمی و عملی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور دینی موضوعات پر تحقیق و تفتیش کے اہم ترین کام کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے سرپرست و مہربان استاذ مکرم حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب مدظلہ کے سائے کو تا دیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے اور انکے علمی فیضان سے فیض یاب فرمائے۔

اور بالخصوص ناشر محترم عزیزم مولانا محمد ناظم اشرف صدیقی صاحب مدظلہ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔

آمین یا رب العلمین

العبد الفقیر محمد کفیل عفی عنہ

مدرس جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد لاہور

عرض مؤلف

مہدی اور ظہور مہدی زمانہ جدید ہی میں نہیں، زمانہ قدیم سے ہی محل بحث و تہیج اور موضوع کلام رہا ہے اور شروع ہی سے اس میں افراط و تفریط برتی جاتی رہی ہے چنانچہ بعض لوگوں نے تو اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا کر انتظار مہدی ہی میں اپنی حیات عزیز اور متاعِ ثنیں کو گنوا دیا، کسی نے محض چند ضعیف حدیثوں کو دیکھ کر احادیث مہدی اور وجود ظہور مہدی سے عہدہ برائی کا اعلان کر دیا، متقدمین میں اس فہرست کے اندر آپ کو ابنِ خلدون کا نام نظر آئے گا اور متاخرین میں آپ کو دور جدید کے مجددین اور نام نہاد مفسرین مل جائیں گے جن پر مفصل تبصرہ آپ اسی کتاب کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

انہی لوگوں میں دورانِ مطالعہ قاضی سلیمان منصور پوریؒ کا ”صحیح احادیث مہدی کا انکار“ بہت عجیب لگا کیونکہ قاضی صاحب ماضی قریب ہی کی شخصیت ہیں اور ان سے پہلے حضرت تھانویؒ بڑی وضاحت کے ساتھ ”مؤخرۃ الظنون عن ابنِ خلدون“ میں ابنِ خلدون کے اعتراضات کا ٹھوس اور مدلل جواب دے چکے تھے۔

اس موقع پر یہ وضاحت بھی بے فائدہ نہ ہوگی کہ بعض لوگ امام ابو حنیفہؒ سے اظہارِ بغض کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، زیر بحث مسئلہ میں بھی انہوں نے کسی خنسی کا یہ قول ڈھونڈ نکالا کہ امام مہدیؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام ابو حنیفہؒ کی تقلید کریں گے، حاشا للہ! کہ تحقیق سے اس کو دور کا بھی مس ہو، اصل بات یہ ہے کہ بعض

۱۔ قاضی صاحب نے اپنی مشہور کتاب ”تاریخ الشاہیر ص ۱۸۸“ پر ابنِ ثورمت کے حالات لکھنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ قارئین ان حالات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ مہدی کے نام سے دنیا میں بالخصوص دنیاۓ اسلام میں کیا کچھ ہو چکا ہے، مجھے اس مقام پر اس قدر لکھ دینا چاہیے کہ ظہور مہدی کے متعلق اگرچہ روایات بکثرت ہیں جن کا شمار درجنوں پر ہے مگر ایسی حدیث ایک بھی نہیں ہے جو محمد ثن کے مسلہ اصول تنقید کے مطابق صحیح مستد مرفوع کا درجہ رکھتی ہو۔ العلم عند اللہ۔

بزرگوں کا ”کشف“ ہے کہ ان حضرات کا اجتہاد، امام صاحبؒ کے اجتہاد سے ملتا جلتا اور مشابہ ہوگا، اب معترض نے یہ نہیں دیکھا کہ کشف حجت شرعیہ بھی ہے یا نہیں؟ مشبہ اور مشبہ بہ میں کوئی فرق بھی ہوتا ہے یا دونوں کا مکمل طور پر متحد ہونا ضروری ہے؟ اور اس پر اعتراض کی بنیاد کھڑی کر دی، حالانکہ نہ تو کشف ہی حجت شرعیہ ہے اور نہ ہی مشبہ و مشبہ بہ میں مکمل اتحاد ضروری ہے لہذا یہ اعتراض لغو اور بیکار ہے۔

الغرض! کچھ لوگ ظہور مہدی کے منکر ہو گئے اور کچھ لوگوں نے دعویٰ مہدویت کرنے میں بھی کوئی خوف محسوس نہیں کیا اور نہایت بیباکی سے اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے بلکہ ملا علی قاریؒ اور صاحب مظاہر حق کے مطابق تو بعض لوگوں نے اپنے گرد اوباشوں کی ایک جماعت اکٹھی کر کے لوگوں سے زبردستی اپنے ”مہدی“ ہونے کو منوانے کی کوشش کی، جس کا انجام بالآخر ناکامی ہوا۔

اس کی مکمل تفصیلات تو قارئین کرام آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے یہاں اجمالی طور پر کتاب سے متعلق چند باتیں عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

(۱) اس کتاب میں امام مہدیؑ سے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقائد بیان کئے گئے ہیں اس لیے امید ہے کہ اس موضوع سے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقائد صحیحہ ہی قارئین کے ذہن میں جگہ پائیں گے۔

(۲) بعض وجوہات کی بناء پر کچھ باتیں مکرر بھی ہو گئی ہیں لیکن چونکہ موقع کی مناسبت کا لحاظ بھی ضروری تھا اس لیے اس تکرار کو حذف نہیں کیا گیا۔ امید ہے کہ قارئین کرام اس سے ملول نہ ہوں گے۔

(۳) پروف ریڈنگ میں انتہائی احتیاط برتی گئی ہے تاہم اگر بتقاضائے بشریت مضمون یا پروف ریڈنگ کی کوئی غلطی قارئین کرام پائیں تو اس کو میرے اساتذہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے میری کم علمی اور بے بضاعتی پر محمول کر کے مطلع فرمائیں۔ انشاء اللہ اپنی غلطی سے رجوع کرنے میں مجھے کوئی باک محسوس نہ ہوگا۔

ناسپاسی ہوگی کہ اگر میں اپنے انتہائی شفیق استاذ حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب مدظلہ کا شکر یہ ادا نہ کروں جنہوں نے قدم قدم پر انگلی پکڑ پکڑ کر رہنمائی فرمائی، حق یہ ہے کہ اس کتاب کو انہی کی طرف منسوب کیا جائے، نیز اس موقع پر میں اپنے انتہائی مشفق سرپرست، مربی اور جان و دل سے زیادہ عزیز حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب دامت برکاتہم کے مشوروں اور ہدایات کو بھی فراموش نہ کر سکوں گا، تقریظات لکھنے والے اساتذہ و مشائخ بالخصوص، جامعہ اشرفیہ کے سب سے اولین مدرس، میرے محبوب استاذ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ”اطال اللہ عمرہ“ جن کو حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی ”چلتا پھرتا کتب خانہ“ کہا کرتے تھے، کتاب کی نشر و طباعت کا اہتمام کرنے والے استاذ محترم مولانا محمد ناظم اشرف صاحب مدظلہ اور کسی طرح بھی تعاون کرنے والوں کا شکر یہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کے طفیل اس روسیاء کی بھی مغفرت فرمادے۔ آمین

محمد ظفر

۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ

﴿مقدمہ﴾

جانشین شیخ موسیٰ، استاذ العلماء، استاذ الحدیث
حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب دامت برکاتہم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد!

دور حاضر میں عقائد و نظریات کے بدلتے ہوئے مختلف رجحانات میں سے ایک رجحان امام مہدیؑ اور ان کے ظہور سے متعلق بھی ہے۔ اسی مقصد کی خاطر مختلف ممالک میں مختلف دعوے روز بروز بلند ہوتے رہتے ہیں چنانچہ کہیں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ سنائی دیتا ہے اور کہیں مہدی موعود ہونے کے دعوے کانوں میں پڑتے ہیں۔ کہیں سے یہ شور بلند ہوتا ہے کہ ۲۰۰۳ء میں ظہور مہدی ہو رہا ہے اور کہیں سے یہ نعرہ لگتا ہے کہ امام مہدیؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور و نزول کا وقت انتہائی قریب آ گیا ہے۔ بس ایک دو سالوں میں ایسا ہونے والا ہے۔

بعض حضرات اپنی اپنی جماعت کے افراد کو امام مہدیؑ کے قبیعین قرار دینے میں کوشاں نظر آتے ہیں اور بعض حضرات ایزی چوٹی کا زور لگا کر اپنے سر کردہ افراد یا قائدین پر امام مہدیؑ کی علامات چسپاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دور جدید میں یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہر شخص اپنے مخاطبین کے سامنے کوئی ایسی نئی بات پیش کرنا چاہتا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہو،

اور اس سے اس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ مخاطبین پر اس کا رعب بیٹھ جائے خواہ اس کو علم و دانش کی راہ سے کوئی مس ہو یا نہ ہو، اور وہ بات سنجیدگی و وقار کے دائرے میں آتی ہو یا نہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس نئی بات اور نئے دعوے کو وہ پیش کر رہا ہے، نجانے وہ اس پر چسپاں بھی ہوتا ہے یا نہیں؟

یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جس میں ظہور مہدیؑ کے انکار کی روح کارفرما نظر آتی ہے چنانچہ کبھی محدثانہ انداز سے جرح و تنقید کے ذریعے ظہور مہدیؑ کا انکار کیا جاتا ہے اور کبھی اس سلسلے کی احادیث کو ایرانی اور عجمی تخیلات کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ کبھی یہ دعویٰ تراشا جاتا ہے کہ ظہور مہدیؑ سے متعلق احادیث کو عربی تخیلات اور قرآن کی صحیح اسپرٹ سے کوئی سروکار نہیں اور کبھی یہ کہہ کر ظہور مہدیؑ کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں امام مہدیؑ اور ان کے ظہور کا کوئی تذکرہ نہیں، کبھی ظہور مہدیؑ کے عقیدے کو اپنانے پر اسے مصیبت قرار دیا جاتا ہے اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ امام مہدیؑ کے متعلق زور دار ثبوت بالکل نہیں ہے۔

ارباب عقل پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ دونوں نظریئے افراط و تفریط پر مبنی ہیں، اہل سنت و الجماعت میں سے کسی بزرگ نے نہ تو اپنے لیے مہدویت کا دعویٰ کیا اور نہ ظہور مہدیؑ کا انکار کیا بلکہ انہوں نے اس کو بعینہ اسی طرح تسلیم کیا جیسا کہ احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہے۔

اس رسالے کی وجہ ترتیب ایک تو یہی بنی کہ لوگ اس سلسلے میں بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہیں اور ان کو حق بات اور مستند معلومات تک رسائی حاصل نہیں۔ دوسری وجہ اور محرک یہ بنا کہ دور جدید کی دینی مطالعاتی کتب میں امام مہدیؑ کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کا تذکرہ مفقود ہوتا جا رہا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ دور حاضر کے فارغ التحصیل علماء بھی امام مہدیؑ کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتے کہ وہ اپنے مخاطب کو مطمئن کر سکیں، کتب حدیث میں جہاں کہیں امام مہدیؑ کا تذکرہ آتا ہے اس کا سرسری طور پر مطالعہ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہی لوگ بعد میں یا تو ظہور مہدیؑ کے قطعی

منکر ہو جاتے ہیں یا اس موضوع کو اپنے ذہن میں بالکل جگہ نہیں دے پاتے۔
ان وجوہات اور محرکات کی بناء پر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا تاکہ قرآن و
حدیث کی تعلیمات اور اکابر محدثین و علماء کے اقوال و آراء قارئین کرام کے سامنے پیش
کر دیئے جائیں اور امام مہدیؑ کے بارے میں قرآن و سنت کی مستند معلومات اور اس
بارے میں درست عقائد ہی ذہن میں جگہ پاسکیں۔

اس رسالے کو سات ابواب اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا گیا ہے جس کا اجمالی
خاکہ یوں ہے:


باب اول عقیدہ ظہور مہدیؑ
باب دوم نام و نسب اور سیرت
باب سوم علامات ظہور مہدیؑ
باب چہارم ظہور مہدیؑ سے قبل کے واقعات
باب پنجم ظہور مہدیؑ ترتیب زمانی کے ساتھ واقعات کے تناظر میں
باب ششم امام مہدیؑ سے متعلق صحیحین کی روایات، ۳۷ صحابہؓ و صحابیاتؓ کی روایات
باب ہفتم منکرین و مدعیان مہدویت
خاتمہ علماء کرام کے فتاویٰ

آخر میں عزیز مولوی محمد ظفر سلمہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ عزیز موصوف
نے احقر کی گذارشات کے مطابق انتہائی جانفشانی، مسلسل جدوجہد، لگن اور محنت سے مواد
کی جستجو کی، اسے جمع کیا اور عمدہ ترتیب کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔


اللہ رب العزت موصوف کی عمر، علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور کتاب
کے ناشر مولانا محمد ناظم اشرف سلمہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔

احقر

محمد یوسف خان عفی عنہ

باب اول


عقیدہ ظہور مہدیؑ



قرآنی آیات کا ظہور مہدیؑ کی طرف اشارہ، تواتر احادیث مہدیؑ، امام اور رضی اللہ عنہ کا خطاب، اسماء صحابہؓ مع حوالہ جات، علماء کرام کی آراء، اسماء کتب، امام مہدیؑ افضل یا شیخینؑ؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس دنیا کی ایک ابتداء تھی اور ایک انتہاء ہے، ابتداء ہو چکی اور انتہاء قریب ہے جس کے لیے وقوع قیامت کو علامت قرار دیا گیا ہے اور ان علامات کی صراحت صحیح احادیث میں کثرت سے موجود ہے۔

بنیادی طور پر علامات قیامت کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے چنانچہ محمد تاج عبدالرحمن العروسی اپنی کتاب ”عقیدۃ المسلم فی ضوء الكتاب والسنة“ کے ص ۳۳۷ پر رقم طراز ہیں:

”علامت قیامت میں سے بعض علامات چھوٹی ہیں اور بعض بڑی۔ پھر چھوٹی علامات کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) وہ علامات جو واقع ہو چکی ہیں۔ (۲) وہ علامات جو اب تک واقع نہیں ہوئیں۔ اول قسم میں وہ علامات بھی شامل ہیں جو کہ پوری ہو چکیں اور وہ بھی کہ جن کا ظہور یکدم نہیں ہوا بلکہ آہستہ آہستہ ہوا، اسی طرح وہ علامات بھی کہ جو مکرر واقع ہوئیں اور وہ بھی جو مستقبل میں کثرت سے واقع ہوں گی۔“

پھر آگے انہوں نے ہر ایک کی تفصیلات مثالوں کے ذریعے پیش کی ہیں جن سے فی الحال یہاں بحث کرنا مقصود نہیں۔

علامت قیامت میں سے ایک علامت ”ظہور مہدی“ بھی ہے جس پر اس رسالے میں قدرے تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ انشاء اللہ العزیز۔

”ظہور مہدی“ سے متعلق عقیدے کی بحث سے پہلے اس موضوع سے متعلق قرآنی آیات کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

1979

﴿وہ آیات جن میں امام مہدیؑ کی طرف اشارہ موجود ہے﴾

حضرت امام مہدیؑ کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً تو نہیں البتہ ایک دو آیتوں میں ان کی طرف اشارہ ضرور پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں:

(۱) ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (البقرہ: آیت نمبر ۱۱۳)

اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:

﴿وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عندسدى وعكرمة ووائل بن داؤد﴾ (تفسیر ابن کثیر: ج ۱ ص ۲۰۸)

”اور ان لوگوں (یہودیوں اور عیسائیوں) کے لیے دنیا میں رسوائی کی تفسیر، سدی، عکرمة اور وائل بن داؤد کے نزدیک ”خروج مہدی“ سے کی گئی ہے۔“

اگرچہ یہ تفسیری قول کہ دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں کی اصل رسوائی خروج مہدی کے وقت ہوگی، سدی، عکرمة اور وائل بن داؤد کا ہے لیکن چونکہ احادیث سے ثابت شدہ واقعات اس کی تائید کر رہے ہیں اس لیے اس کو صحیح مان لینے میں بظاہر کوئی حرج بھی نہیں۔

(۲) اسی طرح علامہ ابن کثیر ہی نے آیت قرآنی

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ (المائدہ: ۱۲)

کے تحت بارہ خلفاء والی روایت ذکر کی ہے کہ اس امت میں بارہ نیک و عادل

خلفاء ہوں گے اور یہ روایت مسند احمد کے حوالے سے بدیں الفاظ منقول ہے۔
 ﴿عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود
 رضی اللہ عنہما وهو یقرنا القرآن فقال له رجل یا ابا
 عبد الرحمن! هل سألتم رسول اللہ ﷺ کم یملك
 هذه الامة من خليفة؟ فقال عبد الله ما سألنی عنها احد
 منذ قدمت العراق قبلک ثم قال نعم ولقد سألنا رسول
 اللہ ﷺ فقال اثنا عشر كعدة نساء بنی اسرائیل. هذا
 حدیث غریب من هذا الوجه واصل هذا الحدیث ثابت
 فی الصحیحین من حدیث جابر بن سمرة رضی اللہ
 عنه قال سمعت النبی ﷺ یقول لا یزال امر الناس
 ماضیا ما ولیهم اثنا عشر رجلا ثم تكلم النبی ﷺ
 بكلمة خفیت علی فسالت ای ماذا قال النبی ﷺ؟
 قال كلهم من قریش. وهذا لفظ مسلم ومعنی هذا
 الحدیث البشارة بوجود اثنی عشر خليفة صالحا یقیم
 الحق و یعدل فیهم ولا یلزم من هذا توالیهم و تابع
 ایاهم بل وقد وجد منهم اربعة علی نسق وهم الخلفاء
 الاربعة ابو بكر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم
 و منهم عمر بن عبدالعزیز بلاشك عند الائمة و بعض
 بنی العباس و لا تقوم الساعة حتی تكون و لا یتهم لا
 محالة و الظاهر ان منهم المهدی المبشر به فی
 الاحادیث الواردة بذكره فذكرانه یواطئ اسمه اسم
 النبی ﷺ و اسم ابیه اسم ابیه فیملأ الارض عدلا
 و قسطا كما ملئت جورا و ظلما ﴿تفسیر ابن کثیر: ج ۲ ص ۴۷﴾

”مسروق کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمیں قرآن پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ اے ابو عبدالرحمن! کیا آپ لوگوں نے حضور ﷺ سے یہ پوچھا تھا کہ اس امت میں کتنے خلفاء ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ جب سے میں عراق آیا ہوں، تجھ سے پہلے کسی نے یہ سوال نہیں کیا، پھر فرمایا کہ ہاں! ہم نے حضور ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا تھا اور آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ اس امت میں بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد کے برابر یعنی بارہ خلفاء ہوں گے، یہ حدیث اس سند سے تو ایک ہی راوی سے مروی ہے لیکن اس کی اصل بخاری و مسلم میں حضرت جابر بن سمرہؓ کی حدیث سے موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کا یہ امر (دین) ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا جب تک کہ بارہ آدمی زمین میں حکمران (خلیفہ) نہ ہو جائیں، پھر حضور ﷺ نے آہستہ سے ایک بات کہی (جو میں سن نہ سکا) تو میں نے (پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے) پوچھا کہ حضور ﷺ نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ بارہ کے بارہ خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ روایت کے یہ الفاظ امام مسلم نے نقل کیے ہیں:

اس حدیث کا مقصد بارہ صالح خلفاء کے وجود کی بشارت دینا ہے جو لوگوں میں حق اور انصاف کو قائم کریں گے لیکن اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بارہ خلفاء یکے بعد دیگرے لگاتار آئیں گے، بلکہ ان میں سے چار تو علی الترتیب خلفاء اربعہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم ہی ہیں اور باقی تین ائمہ عمر

بن عبدالعزیزؒ بھی ان میں شامل ہیں، نیز بنو عباس کے بعض خلفاء بھی ان میں سے ہیں اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ سب خلیفہ نہ ہو جائیں، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان بارہ خلفاء میں امام مہدیؒ بھی داخل ہیں جن کے متعلق احادیث میں بشارت آئی ہے چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ امام مہدیؒ کا نام، حضور ﷺ کے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام، آپ ﷺ کے والد کے نام جیسا ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔“

﴿ظہور مہدیؒ اہلسنت والجماعت کا عقیدہ﴾

چونکہ حضرت امام مہدیؒ کا ظہور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہے اس لیے اس پر عقائد کی روشنی میں بحث کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے چنانچہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اخیر زمانے میں امام مہدیؒ کا ظہور برحق اور صدق ہے اور اس کا ظہور اس قدر روایات سے ثابت ہے کہ جن پر تواتر معنوی کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے چنانچہ محدث شہیر مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح ”التعلیق الصبح“ ص ۱۹۸ پر شرح عقیدہ سفارینی ج ۲ ص ۸۰ سے نقل کیا ہے۔

﴿قال السفارینی قد کثرت الروایات بخروج المہدی حتی بلغت حد التواتر المعنوی وشاع ذلك بین علماء السنة حتی عد من معتقد اتهم فالایمان بخروج المہدی واجب کما هو مقرر عند اهل العلم ومدون فی عقائد اهل السنة والجماعة﴾

”امام سفارینی نے فرمایا ہے کہ خروج مہدیؒ کی روایات اتنی کثرت

کے ساتھ موجود ہیں کہ وہ تو اتر معنوی کی حد تک پہنچ چکی ہیں اور یہ بات علماء اہل سنت کے درمیان اس درجے مشہور ہے کہ وہ ان کے عقائد میں شمار ہوتی ہے بس امام مہدیؑ کے ظہور پر حسب بیان علماء وعقائد اہل سنت والجماعت، ایمان لانا ضروری ہے۔“

اسی طرح بذل المجہود شرح ابوداؤد میں حدیث ”لو لہ یبق من الدنیا..... الخ“ کی شرح میں مرقوم ہے۔

﴿حاصل معنی الحدیث ان بعثہ مؤکد یقینی لا بدان
یکون﴾ (بذل المجہود: ج ۵ ص ۱۰۱)

”حدیث کا حاصل معنی یہ ہے کہ امام مہدیؑ کا بھیجا جانا ہو کہ اور یقینی بات ہے اور ایسا ہونا ضروری ہے۔“

نیز حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ اپنی کتاب ”عقائد الاسلام“ حصہ اول کے ص ۶۳ پر ”فائدہ جلیلہ“ کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں۔

”اہل سنت والجماعت کے عقائد میں ہے کہ امام مہدیؑ کا ظہور اخیر زمانے میں حق اور صدق ہے، اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ امام مہدیؑ کا ظہور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اگرچہ اس کی بعض تفصیلات اخبار آحاد سے ثابت ہیں، عہد صحابہ و تابعین سے لے کر اس وقت تک امام مہدیؑ کے ظہور کو مشرق و مغرب میں ہر طبقہ کے مسلمان علماء اور صلحاء عوام اور خواص ہر قرن اور ہر عصر میں نقل کرتے چلے آئے ہیں۔“

اسی طرح حضرت مولانا سید بدر عالم مہاجر مدنی نے بھی ترجمان السنۃ ج ۳ ص

۳۷۸ پر شرح عقیدہ سفارینیہ کے حوالے سے ظہور مہدیؑ کی روایات پر تو اتر معنوی کا دعویٰ کیا ہے اور شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ نے بھی ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ کی جلد اول میں ایک صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس پر قدرے تفصیلی

بحث فرمائی ہے اور ظہور مہدیؑ کو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شمار کیا ہے۔

﴿ظہور مہدیؑ کی قطعیت﴾

ظہور مہدیؑ اس قدر یقینی بات اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس سلسلے میں ملا علی قاریؒ نے مرقاۃ ج ۱۰ ص ۱۷۴ پر مسند احمد اور ابوداؤد کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ الْيَوْمَ لَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلًا مِنْ
أَهْلِ بَيْتِي يَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ جُورًا، وَرَوَاهُ ابْنُ
مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا الْيَوْمَ
لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي
يَمْلِكُ جِبَالَ الدِّيْلَمِ وَالْقُسْطَنْطِينِيَّةَ﴾

(مرقاۃ الفاتح: ج ۱۰ ص ۱۷۴)

”اگر زمانے کا صرف ایک دن بچے (اور مہدیؑ نہ آئے، علامات قیامت پوری ہو جائیں) تب بھی اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بھیج کر رہیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ (اس سے پہلے) ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے (تب بھی ظہور مہدیؑ کے لیے) اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دیں گے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی دیلم اور قسطنطنیہ کے پہاڑوں کا مالک ہو جائے۔“

﴿امام مہدیؑ کے لیے ”رضی اللہ عنہ“ کا خطاب﴾

اہل سنت والجماعت امام مہدیؑ کو نہ تو مامور من اللہ سمجھتے ہیں اور نہ ان کا درجہ انبیاء کرام علیہم السلام کے برابر مانتے ہیں اور ہمارے یہاں جو ان کو ”امام“ کہا جاتا ہے اس سے کسی خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں چنانچہ شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ، امام مہدیؑ کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت مہدی علیہ الرضوان کے لیے ”رضی اللہ عنہ“ کے پرشکوہ الفاظ پہلی بار میں نے استعمال نہیں کیے بلکہ اگر آپ نے مکتوبات امام ربانیؒ کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکتوبات شریفہ میں امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے حضرت مہدیؑ کو انہی الفاظ سے یاد کیا ہے..... الخ۔“ (آپ کے مسائل اور ان کا حل: ج ۱ ص ۲۷۱)

معلوم ہوا کہ حضرت امام مہدیؑ کو ”رضی اللہ عنہ“ کہنا جائز ہے اور اگر صرف اسی بات کو دیکھ لیا جائے کہ امام مہدیؑ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہوں گے تو ان کے لیے ”رضی اللہ عنہ“ کا لفظ استعمال کرنے پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا۔

﴿حضرت مہدیؑ کے لیے ”امام“ کا خطاب﴾

اسی طرح حضرت مہدیؑ کے لیے ”امام“ کا لفظ استعمال کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں چنانچہ حضرت لدھیانویؒ مذکورہ مسائل ہی کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

”جناب کو حضرت مہدیؑ کے لیے ”امام“ کا لفظ استعمال کرنے پر بھی اعتراض ہے اور آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ”قرآن مقدس اور حدیث مطہرہ سے امامت کا کوئی تصور نہیں ملتا“ اگر اس سے مراد ایک خاص گروہ کا نظریہ امامت ہے تو آپ کی یہ بات صحیح ہے مگر جناب کو یہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ میں نے بھی ”امام“ کا

لفظ اسی اصطلاحی مفہوم میں استعمال کیا ہوگا۔ کم سے کم امام مہدی کے ساتھ ”رضی اللہ عنہ“ کے الفاظ کا استعمال ہی اس امر کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ ”امام“ سے یہاں ایک خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں“ (آپ کے مسائل اور ان کا حل: ج ۱ ص ۲۷۲)

نیز حضرت لدھیانویؒ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”امام مہدی علیہ الرضوان نبی نہیں ہوں گے اس لیے ان کا درجہ پیغمبروں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مہدیؑ کے زمانے میں نازل ہوں گے وہ بلاشبہ پہلے ہی سے اولوالعزم نبی ہیں“ (آپ کے مسائل اور ان کا حل: ج ۱ ص ۲۷۶)

﴿ حضرت امام مہدیؑ کے بارے میں اہل حق کا فتویٰ ﴾

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں اہل حق کے اتفاقی قول کو نقل کرتے ہوئے حضرت لدھیانویؒ رقم طراز ہیں:

”حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے جو کچھ فرمایا ہے اور جس پر اہل حق کا اتفاق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد اور والد کا نام عبد اللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے اسی طرح وہ شکل و شبہت اور اخلاق و شمائل میں آنحضرت ﷺ کے مشابہ ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ ان کی نبوت پر کوئی ایمان لائے گا۔

ان کی کفار سے خوزیز جنگیں ہوں گی۔ ان کے زمانے میں کانے دجال کا خروج ہوگا اور وہ لشکر دجال کے محاصرے میں گھر جائیں

گے۔ ٹھیک نماز فجر کے وقت دجال کو قتل کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں پڑھیں گے، نماز کے بعد دجال کا رخ کریں گے، وہ لعین بھاگ کھڑا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے باب لد پر قتل کر دیں گے، دجال کا لشکر تہہ تیغ ہوگا اور یہودیت و نصرانیت کا ایک ایک نشان مٹا دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ عقیدہ جس کے آنحضرت ﷺ سے لے کر تمام سلف صالحین، صحابہ و تابعین اور ائمہ مجددین معتقد رہے ہیں“

(آپ کے مسائل اور ان کا حل: ج ۱۲ ص ۲۶۷)

﴿امام مہدیؑ سے متعلق روایات﴾

﴿کے راوی صحابہ کرام علیہم الرضوان﴾

اس سے قبل آپ حضرات یہ پڑھ آئے ہیں کہ ظہور مہدیؑ کی روایات اس قدر کثرت سے مروی ہیں کہ ان پر تو اتر معنوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہاں ان صحابہ کرامؑ کی فہرست مع حوالہ جات کے دی جا رہی ہے جنہوں نے امام مہدیؑ سے متعلق روایات نقل کی ہیں اور ان کی روایات آپ اسی کتاب کے باب ششم میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

نمبر شمار	نام صحابی	حوالہ جات
(۱)	حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ	کتاب البرہان ج ۲ ص ۵۵۲
(۲)	حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ	کتاب البرہان ج ۲ ص ۵۹۱، بحوالہ افراد للدارقطنی والتاریخ لابن عساکر.

<p>مسند ابی یعلیٰ ج ۱ ص ۳۵۹، المصنف لعبدالرزاق ج ۱۱ ص ۳۷۳، ابوداؤد ج ۲ ص ۲۳۹، ابن ماجہ ۳۰۸۰</p>	<p>حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۳)</p>
<p>التذکرہ للقرطبی ص ۷۰۳</p>	<p>حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ</p>	<p>(۴)</p>
<p>کتاب الفتن ص ۲۶۲، ترجمان السنة ج ۲ ص ۴۰۲، مسلم شریف ۷۲۳۲</p>	<p>حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا</p>	<p>(۵)</p>
<p>کتاب الفتن ص ۲۲۷، کتاب البرهان، ج ۲ ص ۷۰۷، مسلم شریف ۷۲۳۲، ابن ماجہ ۴۰۴۳</p>	<p>حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا</p>	<p>(۶)</p>
<p>الاشاعة لاشراط الساعة ص ۲۳۲، ترمذی ۲۱۸۳، ابن ماجہ ۳۰۶۳</p>	<p>حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا</p>	<p>(۷)</p>
<p>کتاب البرهان، ج ۲ ص ۶۶۲</p>	<p>حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا</p>	<p>(۸)</p>
<p>ابوداؤد، ج ۲ ص ۲۳۰، مشکوٰۃ ص ۴۷۱، ترجمان السنة ج ۳ ص ۳۵، مسلم شریف ۷۲۳۰، ابن ماجہ ۴۰۶۰</p>	<p>حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا</p>	<p>(۹)</p>
<p>ترمذی ج ۲ ص ۴۶، ترجمان السنة ج ۳ ص ۳۸۳، الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۷۰، مسلم ۷۲۸۱، ابوداؤد ۴۲۸۲، ابن ماجہ ۴۰۸۲</p>	<p>حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه</p>	<p>(۱۰)</p>

المصنف لعبد الرزاق ج ۱۱ ص ۳۷۱، ابوداؤد ج ۲ ص ۲۳۹، ترمذی ج ۲ ص ۳۶، ابن ماجہ ۴۰۸۳	حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ	(۱۲)
ترمذی ج ۲ ص ۴۶، بخاری ۱۱۰. ۳۳۲۹، مسلم شریف ۷۲۷۲، ۷۲۷۵	حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ	(۱۳)
مشکوٰۃ ص ۴۷۱، ترجمان السنۃ ج ۲ ص ۳۸۱، ابن ماجہ ۴۰۸۴	حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ	(۱۴)
کتاب البرہان ج ۲ ص ۷۳۸، ابن ماجہ ۴۰۸۸	حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ	(۱۵)
کتاب البرہان ج ۲ ص ۵۶۷، ابن ماجہ ۴۰۸۷	حضرت انس رضی اللہ عنہ	(۱۶)
الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۷۵	حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	(۱۷)
ترجمان السنۃ ج ۳ ص ۳۹۹، الاشاعۃ لاشراط الساعۃ ص ۲۲۳	حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ	(۱۸)
کتاب البرہان ج ۲ ص ۵۸۲	حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ	(۱۹)
کتاب الفتن ص ۲۳۸	حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما	(۲۰)
کتاب الفتن ص ۲۳۶، کتاب البرہان ج ۲ ص ۵۲۱	حضرت عمار رضی اللہ عنہ	(۲۱)

آثار القیامہ فی حجج الکرامہ ص ۳۵۶، الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۹۷	حضرت عباس رضی اللہ عنہ	(۲۲)
کتاب الفتن ص ۲۶۳، کتاب البرہان ج ۲ ص ۵۱۳، ص ۷۳۱	حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما	(۲۳)
کتاب البرہان ج ۲ ص ۵۲۶	حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ	(۲۴)
کتاب البرہان ج ۲ ص ۶۵۲	حضرت حسین رضی اللہ عنہ	(۲۵)
کتاب البرہان ج ۲ ص ۵۱۰	حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ	(۲۶)
کتاب البرہان ج ۲ ص ۶۶۷	حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ	(۲۷)
کتاب الفتن ص ۳۶۰	حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ	(۲۸)
کتاب الفتن ص ۲۶۰	حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنہ	(۲۹)
کتاب البرہان ج ۲ ص ۶۱۱، ترجمان السنۃ ج ۳ ص ۳۹۶، ابوداؤد ۴۲۹۲	حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ	(۳۰)
کتاب البرہان ج ۲ ص ۵۲۳، کتاب الفتن ص ۲۳۷	حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا	(۳۱)
الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۷۲	حضرت قرۃ المرزنی رضی اللہ عنہ	(۳۲)
الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۹۵	حضرت قیس بن جابر رضی اللہ عنہ	(۳۳)

الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۱۰۲، ابو داؤد ۴۲۷۹. ۴۲۸۱، ترمذی ۲۲۲۳	حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ	(۳۳)
کتاب الفتن ص ۱۹۰،	حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ	(۳۵)
مسلم شریف ۷۲۷۶	حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ	(۳۶)
ابو داؤد ۴۲۹۲	حضرت ذی مخبر رضی اللہ عنہ	(۳۷)

﴿ علماء کرام کی احادیث مہدیؑ کی بابت آراء ﴾

احادیث مہدیؑ کے راوی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اجمالی فہرست آپ ملاحظہ فرما چکے اب آپ احادیث مہدیؑ کی بابت علماء کرام کی آراء بھی ملاحظہ فرمائیں:

شیخ یوسف بن عبداللہ الوابل اپنی کتاب ”اشراط الساعۃ“ کے ص ۲۵۹ پر ”تواتر احادیث المہدی“ کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ ”میں نے امام مہدیؑ کے سلسلے کی جو روایات ذکر کی ہیں (اور ان سے زیادہ وہ روایات جو میں نے بخوف طوالت چھوڑ دی ہیں) وہ تواتر معنوی کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں جیسا کہ علماء نے اس کی تصریح کی ہے۔ ان میں سے چند علماء کے اقوال میں یہاں بھی ذکر کرتا ہوں۔

(۱) حافظ ابوالحسن آبرویؒ کی رائے:

”امام مہدیؑ کے تذکرہ سے متعلق احادیث بڑی شہرت کے ساتھ حضور ﷺ سے تواتر منقول ہیں، نیز یہ کہ وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہوں گے، سات سال تک حکومت کریں گے۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو امام مہدیؑ دجال کے قتل کے سلسلے میں ان کی مدد کریں گے اور یہ کہ وہ اس امت کے امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء کریں گے۔“

(۲) سید محمد برزنجیؒ کی وضاحت:

”تیسرا باب ان بڑی اور قریبی علامات کے بیان میں ہے جن کے بعد قیامت آجائے گی اور یہ علامات بہت زیادہ ہیں۔ منجملہ ان

کے ایک امام مہدیؑ کا ظہور ہے جو کہ قیامت کی پہلی بڑی علامت ہے اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس سلسلے میں مختلف روایات اس قدر کثرت سے مروی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔“

اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ”یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ امام مہدیؑ کے وجود اور آخر زمانے میں ان کے ظہور اور حضور ﷺ کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہونے کی احادیث تو اتر معنوی کی پہنچی ہوئی ہیں لہذا ان کا انکار کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔“

(۳) علامہ سفاریؒ کا بیان:

”امام مہدیؑ کے ظہور کی روایات کثرت سے وارد ہوئی ہیں حتیٰ کہ وہ تو اتر معنوی کی حد کو پہنچ چکی ہیں اور یہ بات علماء اہل سنت والجماعت کے درمیان مشہور اور ان کے عقائد میں سے ہے۔ اس کے بعد علامہ سفاریؒ نے ظہور مہدیؑ سے متعلق احادیث و آثار اور ان کے راوی صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں اور فرمایا کہ مذکورہ اور غیر مذکور صحابہ اور متعدد تابعین سے اس سلسلے کی اتنی روایات متعددہ مروی ہیں کہ وہ سب مل کر علم قطع کا فائدہ دیتی ہیں لہذا امام مہدیؑ کے ظہور پر ایمان لانا واجب ہے جیسا کہ یہ بات اہل علم کے یہاں ثابت شدہ اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں داخل ہے۔“

(۴) قاضی شوکانیؒ کی تحقیق:

”امام مہدیؑ کی آمد کے بارے میں جن روایت پر با آسانی مطلع ہونا ممکن ہے۔ وہ پچاس احادیث ہیں جن میں سے کچھ صحیح، کچھ حسن اور کچھ ایسی ضعیف ہیں کہ ان کے ضعف کی تلافی ہو جاتی

ہے۔ لیکن ان روایات سے جو مجموعی بات حاصل ہوتی ہے وہ متواتر ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیونکہ اصول حدیث کی اصطلاح کے مطابق اگر کسی سلسلے میں پچاس سے کم روایات مروی ہوں تو اس سے تواتر حاصل ہو جاتا ہے، باقی رہے صحابہ کرامؓ کے وہ ارشادات جن میں امام مہدیؑ کے نام کی صراحت آئی ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں اور ان کا حکم بھی وہی ہے جو مرفوع روایت کا ہوتا ہے اس لیے کہ اس قسم کے واقعات کے بارے میں اجتہاد کی بنیاد پر اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا جاسکتا۔“

(۵) نواب صدیق حسن خانؒ کی رائے:

”امام مہدیؑ کے بارے میں مختلف روایات بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں جو تواتر معنوی کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں اور یہ روایات اسلامی کتب کے مجموعہ جات مثلاً سنن، معاجم اور مسانید وغیرہ میں موجود ہیں۔“

(۶) شیخ جعفر کتانیؒ کا حوالہ:

”خلاصہ کلام یہ ہے کہ مہدیؑ منتظر کے بارے میں احادیث متواترہ موجود ہیں، اسی طرح خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی متواتر احادیث موجود ہیں۔“ (یہ تمام اقوال کتاب ”اشرط الساعۃ“ ص ۲۵۹ تا ۲۶۲ سے ماخوذ ہیں)

(۷) حافظ ابو جعفر عقیلیؒ کی وضاحت:

حافظ ابو جعفر عقیلیؒ اپنی کتاب ”کتاب الضعفاء“ میں علی بن نفیل نہدی کے حالات زندگی تحریر فرماتے ہوئے امام مہدیؑ سے متعلق اس کی روایت کردہ ایک حدیث

کے تحت فرماتے ہیں کہ:

”امام مہدیؑ کے بارے میں اس حدیث کے لیے اس کا کوئی متابع موجود نہیں اور نہ ہی یہ حدیث اس کے علاوہ کسی اور سے مشہور ہے البتہ اس سند کے علاوہ امام مہدیؑ کے بارے میں بہت سی جید احادیث وارد ہیں۔“

اسی طرح زیاد بن بیان الرقی کی سوانح حیات لکھتے ہوئے بھی کہا ہے کہ:

”امام مہدیؑ کے بارے میں بہت سی صحیح سند والی روایات موجود ہیں۔“

(۸) علامہ ابن حبانؒ کی تحقیق:

امام ابو حاتم ابن حبانؒ البستی نے اپنی صحیح میں متعدد ابواب امام مہدیؑ سے متعلق ذکر کر کے ان سے استدلال کیا ہے جس سے ان کے نزدیک بھی ان روایات کا صحیح اور قابل استدلال ہونا معلوم ہوتا ہے۔

(۹) امام ابوسلیمان خطابیؒ کا بیان:

امام ابوسلیمانی خطابیؒ، حضرت انس بن مالکؓ کی اس حدیث:

﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَكُونَ السَّنَةُ

كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ﴾ (الحدیث)

پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”سال کا مہینے کے برابر اور مہینے کا جمعہ کے برابر ہونا امام مہدیؑ کے

زمانے میں ہوگا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا پھر

دونوں کے زمانے میں ہوگا۔“

(۱۰) امام بیہمیؑ کی رائے:

امام بیہمیؑ احادیث مہدیؑ پر یوں تبصرہ نگاری فرماتے ہیں:

”امام مہدیؑ کے ظہور سے متعلق وضاحت احادیث میں یقینی طور پر صحت کے ساتھ ثابت ہے اور یہ صحت سند کے اعتبار سے بھی ہے، نیز ان احادیث میں یہ بھی بیان ہے کہ امام مہدیؑ حضور ﷺ کی اولاد میں سے ہوں گے۔“ (کتاب البرہان: ج ۱ ص ۳۳۰-۳۳۲)

یہ چند علماء کرام کے اقوال آپ کے سامنے متھے از نمونہ خروارے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں اور ابھی اس سے زیادہ پیش کیے جاسکتے ہیں لیکن بخوف طوالت انہیں ترک کیا جاتا ہے۔

اب یہاں امام مہدیؑ کے بارے میں تصنیف شدہ کتابوں کی اجمالی فہرست بھی ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

﴿وہ کتابیں جن میں ضمناً امام مہدیؑ کا تذکرہ آیا ہے﴾

(۱)	المصنف لعبدالرزاق	اس میں گیارہ احادیث مہدی ہیں۔
(۲)	کتاب الفتن	یہ سب سے زیادہ قدیم اور وسیع ماخذ ہے جس میں احادیث مہدیؑ کثرت سے موجود ہیں۔
(۳)	الجامع للترمذی	اس میں تین احادیث مروی ہیں۔
(۴)	المصنف لابن ابی شیبہ	اس میں سولہ روایات ہیں۔
(۵)	سنن ابن ماجہ	اس میں سات احادیث مروی ہیں۔
(۶)	سنن ابی داؤد	اس میں تیرہ احادیث مروی ہیں۔

جبکہ بخاری اور مسلم میں امام مہدیؑ کا نام لیے بغیر کچھ احادیث ذکر کی گئی ہیں جس کی تفصیل قارئین آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

﴿ امام مہدیؑ کے بارے میں مستقل تصانیف ﴾

نمبر شمار	مصنف کا نام	کتاب کا نام
(۱)	ابن ابی خثیمہ بن زہیر بن حرب	بقول سہیلی کے انہوں نے اس موضوع کی احادیث کو جمع کیا تھا۔
(۲)	ابوالحسین احمد بن جعفر بن المناوی	علامہ ابن حجرؒ نے ان کے رسالے کا ذکر کیا ہے۔
(۳)	ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصہبانی	ابن قیم نے ان کی کتاب کا نام ”کتاب المہدی“ اور سیوطی نے ”اربعین“ ذکر کیا ہے۔
(۴)	یوسف بن یحییٰ السلمی الشافعی	عقد الدر فی اخبار المہدی المنتظر۔
(۵)	امام ابن کثیر	”الفتن والملاحم“ میں انہوں نے اپنے رسالے کا تذکرہ کیا ہے۔
(۶)	علامہ سخاوی	بقول عجوبی کے اس کتاب کا نام ”ارتقاء العرف“ ہے۔
(۷)	علامہ سیوطی	العرف الوردی فی اخبار المہدی۔
(۸)	ابن کمال پاشا حنفی	تلخیص البیان فی علامات مہدی آخر الزمان۔
(۹)	محمد بن طولون الدمشقی	المہدی الی ماورد فی المہدی
(۱۰)	ابن حجر ہیتمی کلبی	القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر۔

(۱۱)	شیخ علی متقی ہندیؒ	کتاب البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان.
(۱۲)	ملا علی قاریؒ	المشرب الوردی فی مذهب المہدی.
(۱۳)	ابن بریدہؒ	بقول ابن مناوی کے اس رسالے کا نام ”العواصم من الفتن القواصم“ ہے۔
(۱۴)	مرعی بن یوسف الکریمیؒ	فوائد الفکر فی الامام المہدی المنتظر.
(۱۵)	محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانیؒ	ان کی کتاب کا ذکر نواب صدیق حسن خان نے کیا ہے۔
(۱۶)	قاضی شوکانیؒ	التوضیح فی تواریخ ماجاء فی المہدی المنتظر والدجال والمسیح
(۱۷)	شہاب الدین حلوانیؒ	القطر الشہدی فی اوصاف المہدی.
(۱۸)	محمد بن محمد البلیسیؒ	انہوں نے امام حلوانیؒ کی مذکورہ کتاب کی شرح بنام ”العطر الوردی“ لکھی۔
(۱۹)	ابوالعلاء ادریس العراقیؒ	بقول کتابی کے ان کا بھی امام مہدیؑ کے بارے میں ایک رسالہ ہے۔
(۲۰)	شیخ مصطفیٰ بکریؒ	الهدایة الندیة للامة المہدیة فیما جاء فی فضل الذات المہدیة.
(۲۱)	محمد بن عبدالعزیز مانعؒ	تحذیق النظر فی اخبار الامام المنتظر.
(۲۲)	رشید راشد الحلمیؒ	تنویر الرجال فی ظهور المہدی و الدجال.
(۲۳)	احمد بن محمد بن صدیقؒ	المرشد المبدی لفساد طعن ابن خلدون فی احادیث المہدی.

(۲۳)	عبدالحسن العبادؑ	الرد على من كذب بالا حاديث الصحيحة الواردة في المهدي.
(۲۵)	شيخ عبدالعظيم عبدالعظيم	الاحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل.
(۲۶)	النجم الثاقب في بيان ان المهدي من اولاد علي بن ابي طالب.
(۲۷)	رسالة في المهدي (ملخصاً از كتاب البرهان ج ۱ ص ۳۳۷ تا ص ۳۵۸)
(۲۸)	مولانا اشرف علي تھانویؒ	مؤخره الظنون عن ابن خلدون. وغيره.

﴿امام مہدیؑ افضل یا شیخین؟﴾

حضرت امام مہدیؑ کے متعلق علامہ ابن سیرینؒ کے اس قول کی حقیقت بھی معلوم کر لینا ضروری ہے جس میں انہوں نے حضرت امام مہدیؑ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر فضیلت دی ہے چنانچہ نعیم بن حمادؒ ان کے اس قول کو اس طرح نقل کرتے ہیں:

﴿عن ابن سیرین قیل له المہدی خیر او ابو بکر و عمر

رضی اللہ عنہما؟ قال هو اخیر منہما و یعدل بنی﴾

(کتاب الفتن: ص ۲۵۰)

”علامہ ابن سیرینؒ سے پوچھا گیا کہ امام مہدیؑ زیادہ بہتر ہیں یا

حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما؟ تو ابن سیرینؒ نے کہا کہ امام مہدیؑ

ان دونوں سے زیادہ بہتر ہیں اور نبی کے برابر ہیں“

اس قسم کی دو روایتیں علامہ سیوطیؒ نے بھی الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۹۲ پر نقل

فرمائی ہیں جن میں سے ایک روایت تو ضمیرہ کی سند سے ابن سیرینؒ سے یوں منقول ہے

کہ انہوں نے ایک مرتبہ فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿اذا کان ذلک فاجلسوا فی بیوتکم حتی تسمعوا علی

الناس بخیر من ابی بکر و عمر، قیل ایاتی خیر من ابی بکر

و عمر؟ قد کان یفضل علی بعض﴾ (الحاوی للفتاویٰ: ج ۲ ص ۲۹)

”جب فتنوں کا زمانہ آجائے تو تم اپنے گھروں میں بیٹھ جانا یہاں

تک کہ تم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے زیادہ بہتر آدمی کے

آنے کی خبر کا سن لو (پھر باہر نکلنا) لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضرت

ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بھی افضل کوئی شخص آئے گا؟ فرمایا کہ وہ

تو بعض انبیاء پر فضیلت رکھتا ہوگا۔“

اس روایت کے الفاظ میں کچھ کمی معلوم ہوتی ہے، غالباً کتابت کی غلطی ہے کیونکہ ”افیاتی خیر من ابی بکر و عمر؟“ کے بعد ”قال“ کا لفظ ہونا چاہیے جو ابن سیرین کے جواب پر دلالت کرے، پھر ”قد کان“ میں زیادہ صحیح ”قد کاد“ معلوم ہوتا ہے کیونکہ علامہ ابن حجر مکیؒ اپنی کتاب ”القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر“ ص ۱۷ پر ”کاد“ کا لفظ ہی تحریر فرماتے ہیں اسی طرح لفظ ”بعض“ کے بعد ”الانبیاء“ کا لفظ بھی ہونا چاہیے جیسا کہ علامہ ابن حجر مکیؒ ہی کی مذکورہ صدر کتاب میں یہ لفظ موجود ہے۔ علامہ سیوطیؒ نے دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے نقل کی ہے جس میں ابن سیرین کا قول یوں نقل کیا گیا ہے:

﴿یکون فی هذه الامة خلیفة لا یفضل علیہ ابو بکر ولا

عمر﴾ (الحادی: ج ۲ ص ۹۳)

”اس امت میں ایک خلیفہ ہوگا جس پر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ

عنہما کو بھی فضیلت نہ ہوگی۔“

اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اولاً تو علامہ ابن سیرین کا اپنا قول ہے، کتب حدیث و اشراط ساعہ میں علامہ ابن سیرین (اور غالباً ایک اور بزرگ) کے علاوہ کسی اور سے اس قسم کا قول منقول نہیں۔ ثانیاً یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کے ایک راوی یحییٰ بن الیمان کو محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے ثالثاً یہ کہ اگر اس قول کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس میں ایسی تاویل کی جائے گی جس سے علامہ ابن سیرین کا قول بھی درست ہو جائے اور صحیح احادیث کے ساتھ تعارض بھی نہ آئے چنانچہ مختلف علماء کرام نے اس قول کی مختلف توجیہات ذکر کی ہیں۔

﴿علامہ سیوطیؒ کا جواب﴾

علامہ سیوطیؒ نے مذکورہ صدر دونوں روایتوں کو نقل کر کے اپنا تبصرہ یوں تحریر فرمایا

”میرے نزدیک ان دونوں حدیثوں کی وہی تاویل کی جائے گی جو اس حدیث کی کی جاتی ہے کہ حضور ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آخری زمانے میں نیک عمل کرنے والے کے لیے تم میں سے پچاس کے برابر اجر و ثواب ہوگا۔ یعنی فتنوں کی شدت اور کثرت کی وجہ سے پچاس کے برابر اجر ملے گا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اخیر زمانے کے مسلمان، صحابہ کرامؓ سے بڑھ جائیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اسی طرح امام مہدیؑ کو شیخینؓ سے افضل قرار دینا اس وجہ سے ہے کہ امام مہدیؑ کے زمانے میں فتنوں کی شدت ہوگی چنانچہ ایک طرف تو رومی حملہ آور ہونے کے لیے پرتول رہے ہوں گے اور دوسری طرف دجال ان کا محاصرہ کیے ہوگا، اس سے وہ فضیلت ہرگز مراد نہیں جو زیادہ ثواب اور بلندی درجہ کی طرف لوٹتی ہے اس لیے کہ صحیح احادیث اور اجماع اس بات پر دال ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، انبیاء و مرسلین کے بعد پوری مخلوق سے افضل ہیں۔

(الحادی للفتاوی: ج ۲ ص ۹۳)

﴿علامہ ابن حجر ہیتمیؒ کی جواب﴾

علامہ سیوطیؒ کے اس جواب کو علامہ ابن حجر ہیتمیؒ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور آخر میں تحریر فرمایا ہے:

”امام مہدیؑ کی فضیلت اور ثواب کا اضافہ ایک امر نسبی ہے اس لیے کہ کبھی کبھار مفضول میں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو افضل میں نہیں ہوتیں اسی وجہ سے تو طاؤس نے امام مہدیؑ کا زمانہ پانے کی تمنا کی ہے اس لیے کہ امام مہدیؑ کے زمانے میں نیک کام

کرنے والے کو زیادہ ثواب ملے گا اور گناہ گار کو توبہ کی توفیق ہو گی۔..... الخ“ (القول المختصر فی علامات المہدی المظفر: ص ۷۱)

﴿علامہ سید محمد بزرنجیؒ کا جواب﴾

سید بزرنجیؒ، علامہ سیوطیؒ کی تحقیق نقل کرنے کے بعد اپنی تحقیق یوں رقم فرماتے

ہیں:

”تحقیقی بات یہ ہے کہ باہمی فضیلت کی جہات مختلف ہو سکتی ہیں اس لیے ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم کسی ایک فرد کو مطلق فضیلت دیدیں ہاں! اگر حضور ﷺ ہی کسی کو کلی فضیلت دے دیں تو اور بات ہے ورنہ درست نہیں، کیونکہ ہر مفضول میں کسی نہ کسی جہت سے کوئی ایسی اضافی چیز پائی جاتی ہے جو افضل میں نہیں ہوتی..... الخ“ (الاشاء: ص ۲۳۸)

معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو اگرچہ صحبت نبوی، مشاہدہ وحی اور سبقت اسلام کی وجہ سے امام مہدیؑ پر فضیلت حاصل ہے اور امام مہدیؑ ان سے کم درجے کے ہیں لیکن کچھ مخصوص صفات ان میں بھی ہیں جو شیخینؑ میں نہیں اس لیے علامہ ابن سیرینؒ نے انہیں شیخینؑ سے بہتر قرار دیا ہے۔

ملا علی قاریؒ نے اپنی کتاب ”المشرب الوردی فی مذہب المہدی“ میں تحریر فرمایا

ہے کہ:


”امام مہدیؑ کی افضلیت پر یہ چیز بھی دلالت کرتی ہے کہ حضور ﷺ نے ان کو ”خلیفۃ اللہ“ فرمایا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ ”خلیفۃ رسول اللہ“ کہا جاتا ہے۔“

(الاشاء: ص ۲۳۸)


یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ اگر کسی کو کسی پر کوئی جزوی فضیلت حاصل ہو

جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس پر مکمل فضیلت پالے گا ورنہ دنیا میں کوئی افضل، افضل نہیں رہے گا اور کوئی مفضول، مفضول نہیں رہے گا۔

رہا علامہ ابن سیرین کا یہ کہنا کہ ”مہدی تو بعض انبیاء کے درجے کے قریب پہنچنے والے تھے۔“ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء کریں گے اور یہ امام ہوں گے اور امام، مقتدی سے افضل ہوتا ہے اس لیے امام مہدیؑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ جزوی فضیلت حاصل ہوگئی لیکن یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں کیونکہ حضور ﷺ نے بھی تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے تو کیا اس وجہ سے حضرت ابوبکر اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما حضور ﷺ سے افضل ہو گئے؟ ظاہر ہے کہ یہ قول کسی نے اختیار نہیں کیا اسی طرح امام مہدیؑ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔

باب دوم


حضرت امام مہدیؑ کا نام و نسب



محمد بن عبد اللہ، حسنی یا حسینی، حضرت عباسؑ کی اولاد میں سے؟ لقب اور کنیت، جائے پیدائش، سیرت اور حلیہ مبارکہ

﴿ حضرت امام مہدیؑ کا نام و نسب ﴾

حضرت امام مہدیؑ کا نام:

حضرت امام مہدیؑ کے نام و نسب کے سلسلے میں مستند روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا نام حضور ﷺ کے نام کے مشابہ ہوگا اور ان کے والد کا نام حضور ﷺ کے والد کے نام جیسا ہوگا چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿المہدی یواطی اسمہ اسمی، واسم ابیہ اسم ابی﴾

(کتاب التہن: ص ۲۶۰)

”مہدی کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور ان کے والد کا نام

میرے والد کے نام کے جیسا ہوگا۔“

اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں ترمذی اور ابو داؤد کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی

گئی ہے:

﴿عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ ﷺ لا

تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي

یواطی اسمہ اسمی رواہ الترمذی و ابو داؤد﴾

(مشکوٰۃ المصابیح: ص ۴۷۰)

”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے

فرمایا ”دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے گھر

والوں میں سے ایک شخص، جس کا نام میرے نام کے موافق ہو

گا، پورے عرب کا مالک نہ ہو جائے۔“

اس روایت میں صرف اتنا مذکور ہے کہ حضرت امام مہدیؑ کا نام حضور ﷺ

کے نام جیسا ہوگا، ان کے والد گرامی کے نام کا تذکرہ نہیں ہے جبکہ ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں:

﴿لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا الْيَوْمَ لَطُولَ اللَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ فِيهِ رَجُلًا مَنِيًّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِي أَسْمَهُ اسْمِي وَأَسْمَ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ ظُلْمًا وَجُورًا﴾ (مکتوٰۃ الصّاح: ص ۴۷۰)

”اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی بچ جائے (اور مہدیؑ نہ آئے) تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ اس میں مجھ سے یا (فرمایا کہ) میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بھیجیں گے جس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔“

اسی طرح امام قرطبیؒ نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت نقل کی ہے۔
﴿ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلَايَا تَصِيبُ هَذِهِ الْأُمَّةَ حَتَّى لَا يَجِدَ الرَّجُلُ مَلْجَأًا يُلْجَأُ إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ فَيَبْعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عَسْرَتِي أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ جُورًا وَظُلْمًا﴾ (تذکرہ: ص ۷۰۰)

نیز امام قرطبیؒ ہی نے امام ترمذیؒ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ روایت بھی نقل کی ہے:

﴿لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا الْيَوْمَ. قَالَ زَائِدَةُ فِي حَدِيثِهِ. لَطُولَ اللَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِي أَسْمَهُ اسْمِي وَأَسْمَ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي. خَرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ﴾ (تذکرہ: ص ۷۰۰)

اسی سلسلے کی ایک اور روایت ملا علی قاریؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے بحوالہ ابن ماجہ مرفوعاً نقل کی ہے۔

﴿لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا الْاَيُّومَ لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكِ الْيَوْمَ حَتَّى
يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِي يَمْلِكُ جِبَالَ الدِّيْلَمِ
وَالْقُسْطَنْطِينِيَّةَ﴾ (مرقاۃ المفاتیح: ج ۱۰ ص ۱۷۴)

”اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی بچ جائے
(اور مہدیؑ نہ آئے) تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو لمبا کر دیں گے یہاں
تک کہ میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی دیلم اور قسطنطنیہ کے
پہاڑوں کا مالک ہو جائے۔“

ان مذکورہ روایات پر ایک طالب علمانہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ان تمام احادیث
میں ”رجل“ یا ”رجلا“ کا لفظ ہے جو کہ نکرہ ہے، کسی معین شخص پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا پھر
اس سے امام مہدیؑ کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب حضرت مولانا سید محمد بدر
عالم مہاجر مدنیؒ کی زبانی ملاحظہ ہو، حضرت نے صحیح مسلم کے حوالے سے امام مہدیؑ کی
صفات ذکر کرنے کے بعد تجزیہ کے طور پر تحریر فرمایا ہے کہ:

”یہ تمام صفات ان صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں جن میں محدثین کو
کوئی کلام نہیں۔ اب گفتگو ہے تو صرف اتنی بات میں ہے کہ یہ
خلیفہ کیا امام مہدیؑ ہیں یا کوئی اور دوسرا خلیفہ؟ دوسرے نمبر کی
حدیثوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ یہ خلیفہ امام مہدیؑ ہوں گے،
ہمارے نزدیک صحیح مسلم کی حدیثوں میں جب اس خلیفہ کا تذکرہ
آچکا ہے تو پھر دوسرے نمبر کی حدیثوں میں جب وہی تفصیلات اس
کے نام کے ساتھ مذکور ہیں تو ان کو بھی صحیح مسلم ہی کی حدیثوں کے
حکم میں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ امام

مہدیؑ کا ثبوت خود صحیح مسلم میں موجود ہے تو اس کی گنجائش ہے۔“

(ترجمان السنۃ: ج ۴ ص ۳۷۸)

بہر حال! مذکورہ بالا روایات سے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت امام مہدیؑ کا نام حضور ﷺ کے نام کی طرح ”محمد“ ہوگا اور ان کے والد کا نام حضور ﷺ کے والد کے نام کی طرح ”عبداللہ“ ہوگا البتہ ان کی والدہ کے نام کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں ملی، علامہ سید زنجی نے بھی اپنی کتاب ”الاشاعتہ لاشراط الساعۃ“ میں یہی تحریر فرمایا ہے کہ ”تلاش کے باوجود مجھے آپ کی والدہ کا نام روایات میں کہیں نہیں ملا۔“ (الاشاعتہ: ص ۲۰۵) لیکن حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ اور مولانا بدر عالمؒ نے بھی بحوالہ شاہ رفیع الدینؒ کے امام مہدیؑ کی والدہ کا نام ”آمنہ“ تحریر فرمایا ہے چنانچہ حضرت کاندھلویؒ نے ”ظہور مہدی“ کے عنوان کے تحت تحریر فرمایا ہے۔

”اس کا نام محمد اور اس کے باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہو

گا۔“ (عقائد الاسلام اول: ص ۶۳)

اور حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحبؒ تحریر فرماتے ہیں:

”آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ صاحبہ کا نام آمنہ

ہوگا۔“ (ترجمان السنۃ ج ۴ ص ۳۷۲)

اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا نام

”محمد بن عبداللہ“ حدیث میں وارد نہیں بلکہ حدیث میں فقط اتنا ہے کہ ان کا نام حضور

ﷺ کے نام کے مشابہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کے دو نام قرآن کریم میں

صراحتہ بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) محمد پورے قرآن میں چار مرتبہ استعمال ہوا۔

(۲) احمد پورے قرآن میں ایک مرتبہ استعمال ہوا۔

اس لیے اب یہ کہا جائے گا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام محمد بن

عبداللہ ہوگا یا احمد بن عبداللہ۔

﴿حضرت امام مہدیؑ کا نسب﴾

حضرت محمد بن عبد اللہ المہدیؑ جو کہ نام اور کام دونوں میں حضور ﷺ کے مشابہتوں کے، جیسا کہ آئندہ تفصیل سے یہ بات آپ کے سامنے آئے گی، حضور ﷺ کی اولاد میں سے ہوں گے اور اولاد بھی اس کی جس کو ”سیدۃ نساء اہل البیت“ کا خطاب دیا گیا ہے چنانچہ نعیم بن حماد نے قتادہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیبؒ سے پوچھا۔

قتادہ: کیا امام مہدیؑ کا ظہور برحق ہے؟

سعید: ہاں! برحق ہے!

قتادہ: وہ کن میں سے ہوں گے؟

سعید: قریش میں سے!

قتادہ: قریش کے کون سے خاندان میں سے ہوں گے؟

سعید: بنو ہاشم میں سے!

قتادہ: بنو ہاشم کے کون سے خاندان میں سے ہوں گے؟

سعید: بنو عبدالمطلب میں سے!

قتادہ: عبدالمطلب کی کون سی اولاد میں سے ہوں گے؟

سعید: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے!

(کتاب الفتن: ص ۲۶۱)

اسی طرح حضرت امام مہدیؑ کے نسب کے سلسلے میں نعیم بن حماد ہی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے:

عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال: یا رسول

اللہ المہدی من ائمة الہدی ام من غیرنا؟ قال بل منا،

بنا یختم الدین کما بنا فتح، و بنا یستنقذون من ضلالة

الفتنة كما استنقذوا من ضلالة الشرك، وبنا يؤلف الله بين قلوبهم في الدين بعد عداوة الفتنة كما الف الله بين قلوبهم ودينهم بعد عداوة الشرك. ﴿﴾

(کتاب الفتن: ص ۲۶۲، کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۷۳)

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم ائمہ ہدایت میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور خاندان سے؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا نہیں! بلکہ وہ ہم میں سے ہوں گے، اور جس طرح دین کی ابتداء ہم سے ہوئی ہے اسی طرح اختتام بھی ہم پر ہی ہوگا، اور ہماری ہی وجہ سے لوگ فتنہ کی گمراہیوں سے نجات پائیں گے جس طرح کہ شرک کی گمراہی سے انہوں نے ہماری وجہ سے نجات پائی، نیز ہمارے ہی ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں فتنہ کی عداوت کے بعد اسی طرح دینی الفت پیدا فرمادیں گے جس طرح شرک کی عداوت کے بعد ان کے دلوں میں دینی الفت پیدا فرمائی۔“

اس طرح حضرت ابوسعید خدریؓ سے امام مہدیؑ کے نسب کے سلسلے میں مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿هو من عترتی﴾ (کتاب الفتن: ص ۲۶۳)

”وہ میری اولاد میں سے ہوگا۔“

جبکہ حضرت ام سلمہؓ کی روایت میں ”المہدی من عترتی“ کے الفاظ ہیں۔ اور حضرت ام سلمہؓ ہی کی ایک روایت میں ”المہدی من ولد فاطمة“ کے

الفاظ بھی ہیں۔ (ابن ماجہ: ۳۰۸۶)

﴿لفظ ”عترت“ کی تحقیق﴾

اس سے قبل بھی ”عترت“ کا لفظ گزرا ہے اور یہاں بھی آیا ہے اس کی تشریح محدث شہیر ملا علی قاریؒ کی زبانی ملاحظہ ہو:

﴿قال بعض الشراح العترة ولد الرجل من صلبه وقد تكون العترة الاقرباء ايضا وهى العمومة قلت المعنيان لا يلازمان بيانه بقوله ”من اولاد فاطمة رضى الله عنها“ وفى النهاية عترة الرجل اخص اقاربه وعترة النبى ﷺ بنو عبدالمطلب وقيل قریش كلهم والمشهور المعروف انهم الذين حرمت عليهم الزكوة اقول المعنى الاول هو المناسب للمرام وهو لا ينافى ان يطلق على غيره بحسب ما يقتضيه المقام وقيل عترته اهل بيته لخبر ورد وقيل ازواجه وذريته وقيل اهله وعشيرته الاقربون وقيل نسله الاذنون وعليه اقتصر الجوهرى قلت وهو الذى ينبغى هنا ان عليه يقتصر ويختصر﴾ (مرقاة: ج ۱ ص ۱۴۴، ۱۴۵)

”بعض شارحین نے کہا ہے کہ ”عترة“ انسان کی صلبی اولاد کو کہتے ہیں اور کبھی اس کا اطلاق قریبی رشتہ داروں مثلاً چچا زاد وغیرہ پر بھی ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں معنی حضور ﷺ کے ارشاد کہ ”وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے“ کے مناسب نہیں، نہایہ میں ہے کہ ”عترة“ انسان کے خاص قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں اور جب یہ لفظ حضور ﷺ کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد بنی عبدالمطلب ہوں گے اور ایک قول یہ ہے کہ سارے قریش مراد ہوں گے اور مشہور و معروف قول یہ ہے کہ ”عترة“ سے وہ لوگ مراد ہیں

جن پر زکوٰۃ لینا حرام کر دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہلا معنی ہی مقصود کے مناسب ہے اور یہ اس بات کے منافی نہیں کہ مقام کے اعتبار سے لفظ ”عترت“ سے مراد اہل بیت نبوی ہیں مگر اے حدیث، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ کی ازواج و اولاد مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ کے اہل و عیال اور قریبی رشتہ دار مراد ہیں اور آخری قول یہ ہے کہ اس سے آپ کی قریبی نسل مراد ہے اور جوہری نے اسی پر اکتفاء کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس مقام پر یہی قول اختیار کرنے پر اکتفاء کرنا بہتر اور مناسب ہے۔“

گویا لفظ ”عترت“ کی تحقیق میں نواقوال ہیں جن میں سے حسب بیان جوہری اور اعتمادِ ملاحظی قاری آخری معنی زیادہ راجح ہے یعنی آپ کی قریبی نسل۔

واللہ اعلم بالصواب۔

اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿المہدیٰ منا اهل البيت يصلحه الله في ليلة﴾ (ابن ماجہ: ۴۰۸۰)

”مہدی ہمارے گھر والوں میں سے ہوں گے جن کی اصلاح اللہ

تعالیٰ ایک رات میں کر دیں گے“

جبکہ کتاب الفتن ص ۲۵۵ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یوں ہیں:

﴿المہدیٰ يصلحه الله تعالى في ليلة واحدة﴾

یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ظہور سے قبل حضرت امام

مہدیؑ میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو ان کے منصب ولایت کے مناسب نہیں ہوں گی

اس لیے اللہ تعالیٰ ظہور سے قبل ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما کر ان کو اس امر عظیم

کے لیے تیار کر دیں گے۔

﴿ حضرت امام مہدیؑ حسینی ہوں گے یا حسینی؟ ﴾

مذکورہ بالا تقریر سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا نام نامی محمد بن عبد اللہ یا احمد بن عبد اللہ ہوگا اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ حضرت حسنؑ کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے؟ سو اس سلسلے میں اختلاف ہے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ حضرت حسنؑ کی اولاد میں سے ہوں گے نہ کہ حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے، چنانچہ بذل الجہود: ج ۵ ص ۱۰۲ کے حاشیے پر یہ مرقوم ہے:

﴿وَحَسَى الدَّمْتَسِي فِي حَوَاشِيهِ نَفِي كَوْنَهُ مِنْ أَوْلَادِ

الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا فِي الدَّرَجَاتِ﴾

”فتی نے اپنے حواشی میں امام مہدیؑ کے حضرت حسینؑ کی اولاد

سے ہونے کی نفی بیان کی ہے جیسا کہ کتاب درجات میں ہے“

اسی طرح حضرت کاندھلویؒ نے فیض القدر للمناوی ج ۶ ص ۲۷۹ کے حوالے

سے تحریر فرمایا ہے:

﴿وَمَارَوْي مِنْ كَوْنِهِ مِنْ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ فَوَاهِ جَدًّا﴾

(التعليق الصبح: ج ۶ ص ۱۹۷)

”حضرت مہدیؑ کے حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے ہونے کی

روایت انتہائی ضعیف ہے۔“

اور بعض دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ امام مہدیؑ حضرت حسینؑ کی اولاد میں

سے ہوں گے اور ان کا مستدل حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کی وہ روایت ہے جس کو حاکم اور

ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔

﴿يُخْرِجُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ الْحُسَيْنِ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ، لَوْ

استقبلته الجبال لهدمها واتخذ فيها طرفاً ﴿﴾

(کتاب الغن: ص ۲۶۳)

”حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے مشرق کی طرف سے ایک آدمی نکلے گا، اگر اس کے راستے میں پہاڑ بھی حائل ہو جائیں تو وہ ان کو بھی گرا کر اس میں اپنا راستہ بنا لے گا۔“

نیز علامہ سید برزنجیؒ کی عبارت سے بھی حضرت امام مہدیؑ کے حسینی ہونے کا ثبوت ملتا ہے، انہی کی زبانی ملاحظہ ہو:

﴿ويسير المهدي بالجيش حتى يصير بوادي القرى، وهو من المدينة على مرحلتين الى جهة الشام في هدوء ورفق ويلحقه هناك ابن عمه الحسنى فى اثنى عشر الفاً. فيقول له يا ابن عما انا احق بهذا الامر منك انا ابن الحسن وانا المهدي فيقول له المهدي بل انا المهدي فيقول الحسنى هل لك من آية فابايعك؟ فيومى المهدي عليه السلام الى الطير فيسقط على يديه ويغرس قضيبا يابسا فى بقعة من الارض فيخضرو يورق، فيقول الحسنى يا ابن عمى! هى لك﴾ (الاشاء: ص ۲۱۰)

”اور امام مہدیؑ اپنی افواج کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ”وادی قری“ تک جا پہنچیں گے۔“ جو کہ مدینہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے دو مرحلوں کے فاصلے پر ہے۔“ وہاں انہیں ان کے چچا زاد حسنی بھائی بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ ملیں گے اور کہیں گے کہ میں چونکہ حضرت حسنؑ کا بیٹا اور مہدی ہوں اس لیے اس امر (خلافت) کا تم سے زیادہ حق دار ہوں، امام مہدیؑ کہیں گے کہ نہیں! مہدی تو میں ہوں، حسنی کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی نشانی بھی

ہے جس کو دیکھ کر میں آپ کی بیعت کروں؟ اس پر امام مہدیؑ ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے، وہ ان کے سامنے آگرے گا اور ایک خشک بانس زمین کے ایک حصے میں گاڑ دیں گے وہ اسی وقت سرسبز ہو جائے گا اور برگ و بار لانے لگے گا، یہ دیکھ کر حسی کہیں گے کہ اے میرے چچا زاد بھائی! یہ آپ کا ہی حق ہے۔“

معلوم ہوا کہ حضرت امام مہدیؑ حسینی ہوں گے نہ کہ حسی اور ماقبل میں آئے پڑھ آئے ہیں کہ امام مہدیؑ حسی ہوں گے۔ اب اس کا فیصلہ حضرت ملا علی قاریؒ کی زبانی ملاحظہ ہو۔

﴿واختلف فی انه من بنی الحسن او من بنی الحسین
ویمکن ان یکون جامعاً بین النسبتین الحسنین والاظہر
انه من جهة الاب حسنی و من جانب الام حسینی﴾
(مرقاۃ المفاتیح: ج ۱۰ ص ۱۷۴)

”اور اس بات میں اختلاف ہے کہ امام مہدیؑ حضرت حسنؑ کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دونوں کی نسبت کو جمع کیے ہوئے ہوں گے اور اس میں ظاہر ترین بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ والد کی طرف سے حسی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔“

تقریباً یہی بات بذل المجہود فی حل ابی داؤد ج ۵ ص ۱۰۲ پر اور تعلق الصبح ج ۶ ص ۱۹۶ پر بھی مذکور ہے۔ اور حضرت کاندھلویؒ نے اس کی تائید میں طبرانی کی روایت بھی پیش کی ہے جو اگرچہ ضعیف ہے لیکن تابع کی وجہ سے اس کا ضعف رفع ہو جاتا ہے اور وہ روایت یہ ہے:

﴿اخرج ابو نعیم ان رسول اللہ ﷺ قال لفاطمة
والذی بعثنی بالحق ان منہما یعنی الحسن والحسین

مہدی من ولد العباس عمی (تعلق ایضاً: ج ۶ ص ۱۹۶) ”حضور ﷺ نے (ایک مرتبہ) حضرت فاطمہؓ سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا کہ ان دونوں یعنی حسنؓ اور حسینؓ کی اولاد میں سے مہدی ہوں گے، میرے چچا عباس کے خاندان میں سے۔“

ایک عجیب نکتہ:

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے نجیب الطرفین ہونے پر ملا علی قاریؒ نے بڑا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، جبکہ حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں صرف حضور ﷺ تشریف لائے اور وہ اکیلے ہی ان سب کے قاسم مقام بن گئے اور آپ کی تشریف آوری اولاد اسماعیل کے لیے باعث عزت و شرافت بن گئی اور آپ ﷺ ”خاتم الانبیاء“ ٹھہرے، اسی طرح جب اکثر ائمہ اور اولیاء کرام حضرت حسینؓ کی اولاد میں سے ہوئے تو مناسب تھا کہ حضرت حسنؓ کی اولاد میں سے بھی ایک ایسا شخص آئے جو ان سب کے قاسم مقام ہو کر ”خاتم الاولیاء“ قرار پائے اس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا انتخاب کیا گیا۔

اس موقع پر ملا علی قاریؒ کی عبارت ملاحظہ ہو:

﴿قیاساً علی ما وقع فی ولدی ابراہیم. و ہما اسمعیل و اسحق علیہم الصلوٰۃ والسلام. حیث کان انبیاء بنی اسرائیل کلہم من بنی اسحق و انما نبی من ذریۃ اسمعیل نبینا ﷺ و قام مقام الكل و نعم العوض و صار خاتم الانبیاء فکذلک لما ظہرت اکثر الائمة

واکابر الامۃ من اولاد الحسن فناسب ان ینجب
 الحسن بان اعطی له ولد ینکون خاتم الاولیاء ویقوم
 مقام سائر الاصفیاء علی انه قد قیل لما نزل الحسن
 رضی اللہ عنہ عن الخلافة الصوریة کما ورد فی منقبتہ
 فی الاحادیث النبویة اعطی له لواء ولایة المرتبة القطبیة
 فالمناسب ان ینکون من جملتها النسبة المهدویة
 المقارنۃ للنبوۃ العیسویة واتفقہما علی اعلاء کلمۃ
 المملۃ النبویة علی صاحبہا الوف سلام و آلاف التحیۃ ﴿﴾

(مرقاۃ المفاتیح: ج ۱۰ ص ۱۷۴)

اس عبارت میں ملا علی قاریؒ نے دو وجہیں ذکر فرمائی ہیں، ایک تو وہی جو پیچھے بیان ہوئی اور دوسری یہ کہ حضرت حسینؑ نے خلافت کو رضاء خداوندی کی خاطر چھوڑا اور اپنے بھائی حضرت حسینؑ کو بھی اس سے روکا جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قطب کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمادیا اور ان کی اولاد میں خلافت رکھ دی چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت حسنؑ کی اولاد میں سے امام مہدیؑ کو خلیفہ بنا دیں گے کیونکہ یہ عادت اللہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہترین چیز عطا فرمادیتے ہیں۔

تقریباً یہی بات خاتم المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ نے التعلیق الصبح ج ۶ ص ۱۹۷ پر تحریر فرمائی ہے۔

﴿﴾ کیا امام مہدیؑ حضرت عباسؑ کی اولاد میں سے ہوں گے؟ ﴿﴾

مذکورہ بالا روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام مہدیؑ، حضرت فاطمہؑ کی اولاد سے نجیب الطرفین سید ہوں گے لیکن اس پر حضرت عثمان بن عفانؑ کی روایت سے اعتراض لازم آتا ہے جس میں یہ ہے کہ امام مہدیؑ، حضرت عباسؑ کی اولاد میں سے ہوں

گے۔ (کتاب البرہان ج ۲ ص ۵۹۱، مرتآة الفاتح ج ۱۰ ص ۱۷۵)

اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن حجر ہیتمیؒ کی تحریر فرماتے ہیں:

﴿وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَإَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذُرِّيَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾
 وللعباس فيه ولادة من جهة ان امهاته عباسية والحاصل
 ان للحسن فيه الولادة العظمى لان احاديث كونه من
 ذريته اكثر وللحسين فيه ولادة ايضا وللعباس فيه ولادة
 ايضا ولا مانع من اجتماع ولادات المتعددين في
 شخص واحد من جهات مختلفة ﴿(القول المختصر ص ۲۳)

”ان مختلف روایات کو اس طرح جمع کرنا ممکن ہے کہ امام مہدیؑ
 (اصالتاً) تو حضور ﷺ کی ذریت میں سے ہوں گے اور (جمعاً)
 حضرت عباسؑ کی اولاد میں سے بھی اس اعتبار سے ہوں گے کہ ان
 کے سلسلہ نسب میں سب سے زیادہ حضرت حسنؑ کی نسبت نمایاں
 ہوگی اس لیے کہ اس قسم کی روایات زیادہ ہیں اس کے بعد حضرت
 حسینؑ اور پھر حضرت عباسؑ کی ولادت بھی اس میں شامل ہوگی اور
 ایک ہی شخص میں مختلف جہات سے متعدد ولادتوں کا جمع ہونا ممکن
 ہے۔“

علامہ ابن حجرؒ کی اس جواب کو آسان لفظوں میں اس طرح بیان کیا جاسکتا
 ہے کہ ایک آدمی کئی آدمیوں کی اولاد ہو سکتا ہے مثلاً ایک شخص کے سلسلہ نسب میں اس
 کے آباؤ اجداد میں سے کسی نے ایک عورت سے نکاح کیا جو مثلاً حضرت عباسؑ کے
 خاندان میں سے تھی، اس کے یہاں جو اولاد ہوئی اس نے حضرت حسینؑ کے خاندان میں
 سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا پھر اس کے یہاں جو اولاد ہوئی اس نے حضرت حسنؑ
 کے خاندان کے ساتھ مناکحت کا تعلق کر لیا اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس
 طرح امام مہدیؑ کے نسب کی روایات میں کوئی تعارض اور اختلاف باقی نہیں رہتا۔

جبکہ اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں

﴿و اما مارواه الدارقطني في الافراد عن عثمان رضى
الله عنه المهدي من ولد العباس عمي فمع ضعف
اسناده محمول على المهدي الذي وجد من الخلفاء
العباسية او يكون للمهدي الموعود ايضا نسبة نسبة
الى العباسية﴾ (مرقاة الفاتح: ج ۱۰ ص ۱۷۵)

”باقی رہی وہ روایات جس کو دارقطنی نے افراد میں حضرت عثمانؓ سے روایت کیا ہے کہ مہدی میرے چچا عباسؓ کی اولاد میں سے ہوں گے تو اس کی سند ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ روایت خلفاء عباسیہ میں سے خلیفہ مہدی پر محمول ہے یا پھر مہدی موعود کی بھی نسبی طور پر بنو عباس کی طرف نسبت ہوگی۔“

گویا ملا علی قاری نے اس حدیث کے تین جواب دیئے ہیں:

- (۱) اس روایت کی سند ضعیف ہے۔
- (۲) اس کا محمل خلیفہ مہدی عباسی ہے۔
- (۳) یہ بھی ممکن ہے کہ مہدی موعود کے نسب نامے میں عباسی خاندان کا کوئی فرد ہو۔

﴿ حضرت امام مہدیؑ کا لقب اور کنیت ﴾

جیسا کہ اس سے قبل یہ بات تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا اسم گرامی محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوگا چنانچہ سید بزرگنجی تحریر فرماتے ہیں:

﴿ اما اسمه ففى اكثر الروايات انه محمد وفي بعضها انه
احمد واسم ابيه عبد الله ﴾ (الاشارة: ص ۱۹۲)

”حضرت امام مہدیؑ کا نام اکثر روایات میں محمد اور بعض میں احمد مذکور ہے اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔“

یہی بات شیخ یوسف بن عبداللہ الوائل نے اپنی کتاب اشراط الساعۃ ص ۲۳۹ پر کہی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ”مہدی“ ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہوگا اور اس نام کے ساتھ موسوم ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ مہدی، ہدایت سے ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ انہیں حق بات کہنے اور اس کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس پر ان کی رہنمائی اور دہکیری فرمائیں گے اس لیے ان کو ”مہدی“ کہتے ہیں چنانچہ سید برزنجی تحریر فرماتے ہیں:

﴿ولقبہ المہدی لان اللہ ہداه للحق، والجابر لانہ یجبر قلوب امة محمد ﷺ اولانہ یجبر ای یقہر

الجبارین والظلمین ویقصمہم﴾ (الاشاء: ص ۱۹۳)

”ان کا لقب ”مہدی“ ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق کی طرف ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اسی طرح ان کا لقب ”جابر“ بھی ہوگا کیونکہ وہ امت محمدیہ کے زخمی قلوب پر مرہم رکھیں گے یا اس لیے کہ وہ ظالموں پر غالب آ کر ان کی شان و شوکت کو ختم کر دیں گے۔“

یہ عبارت حضرت امام کے دو لقب ظاہر کر رہی ہے ایک تو وہی جو کہ مشہور و معروف ہے یعنی مہدی، اور دوسرا لقب ”جابر“ ہوگا لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس مقام پر ”جابر“ جبر سے نہیں جس کا معنی ظلم ہوتا ہے بلکہ یہاں ”جابر“، ”جبرہ“ سے ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے استعمال ہونے والی کھچی کو کہتے ہیں۔ چونکہ امام مہدیؑ لوگوں کی تالیف قلب فرمائیں گے اس لیے ان کا لقب ”جابر“ ہوگا۔ یا ان کو ”جابر“ کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ ”جابر“ کا معنی ہے ”غالب“ چونکہ وہ ظالموں پر غالب آ جائیں گے اس لیے ان کا لقب ”جابر“ ہوگا۔

امام مہدیؑ کی کنیت ایک قول کے مطابق ”ابو عبداللہ“ ہوگی اور ایک قول کے مطابق ”ابو القاسم“ ہوگی چنانچہ سید برزنجی تحریر فرماتے ہیں:

﴿وکنیتہ ابو عبداللہ وفی الشفاء للقاضی عیاض رحمہ

اللہ ان کنیتہ ابو القاسم ﴿﴾ (الاشاعر: ص ۱۹۳)
 ”امام مہدیؑ کی کنیت ابو عبد اللہ ہوگی اور قاضی عیاض کی کتاب شفاء
 میں ہے کہ ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔“

لیکن ابو القاسم کنیت رکھنے پر ایک حدیث سے اعتراض وارد ہوگا کہ جس میں
 حضور ﷺ کے نام اور کنیت کو ایک ہی شخص کے لیے جمع کرنے کی ممانعت وارد ہوئی
 ہے جبکہ حضرت امام مہدیؑ کا نام اور کنیت دونوں حضور ﷺ کے موافق ہوں گے؟ اس کا
 جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو ممانعت وارد ہوئی ہے کہ کوئی شخص حضور ﷺ کا نام اور
 کنیت اکٹھی نہ رکھے بلکہ یا تو صرف نام رکھے یا صرف کنیت، وہ حضور ﷺ کے زمانے
 پر محمول ہے کہ آپ کے زمانے میں کوئی شخص ایسا نہ کرے، ہاں بعد میں اجازت ہے
 چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں حضرت محمد بن حنفیہؓ کی اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ
 روایت منقول ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا:

﴿ارایت ان ولدلی بعدک ولداسمیہ باسمک واکنیہ

بکنیتک قال نعم رواہ ابو داؤد﴾ (مشکوٰۃ الصالح: ص ۳۰۸)

”آپ مجھے اس بارے میں بتائیے کہ اگر آپ کی وفات کے
 بعد میرے یہاں کوئی اولاد ہوئی تو میں آپ کے نام پر اس کا
 نام اور آپ کی کنیت پر اس کی کنیت رکھ دوں؟ فرمایا ہاں! کوئی
 حرج نہیں۔“

اس حدیث میں اس بات کی صراحت اجازت ہے کہ حضور ﷺ کی وفات کے
 بعد آپ کے نام اور کنیت کو جمع کرنا جائز ہے چنانچہ حضرت ملا علی قاریؒ تحریر فرماتے ہیں:

﴿وقیل النهی مخصوص بحیاتہ لنلا یلتبس خطابہ

بخطاب غیرہ وهذا هو الصحیح﴾ (مرقاۃ المفاتیح: ج ۹ ص ۱۰۷)

”اور ایک قول یہ ہے کہ ممانعت حضور ﷺ کی زندگی کے ساتھ
 خاص تھی تاکہ التباس لازم نہ آئے اور یہی صحیح ہے۔“

پھر اس کے بعد ملا علی قاریؒ نے علامہ طیبیؒ کے حوالے سے چند اقوال اس سلسلے میں مزید نقل کیے ہیں اور ہر ایک پر تنقید کی ہے، یہ بہت عمدہ بحث ہے اہل علم حضرات مرقاۃ کی طرف رجوع فرمائیں۔

﴿ حضرت امام مہدیؑ کی جائے پیدائش ﴾

حضرت امام مہدیؑ کی ولادت باسعادت ”مدینہ منورہ“ میں ہوگی جیسا کہ نعیم بن حماد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے۔

﴿المہدی مولدہ بالمدينة﴾ (کتاب الفتن: ص ۲۵۹)

علامہ سید بزرنجیؒ نے بھی الاشاعہ میں نعیم بن حماد ہی کی مذکورہ روایت کو نقل کرتے ہوئے حضرت امام مہدیؑ کی جائے پیدائش مدینہ منورہ کو قرار دیا ہے۔ جبکہ امام قرطبیؒ نے اپنی کتاب ”الذکرہ“ میں امام مہدیؑ کی جائے پیدائش بلاد مغرب میں بیان کی ہے۔ کما ذکرہ البرزنجی فی الاشاعہ ص ۱۹۴۔ لیکن صحیح اول ہی ہے۔

﴿ حضرت امام مہدیؑ کی سیرت ﴾

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان اپنی سیرت ”اور اخلاق“ میں سرکار دو عالم ﷺ کے مشابہہ اور مماثل ہوں گے کیونکہ وہ حضور ﷺ کی اولاد میں سے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ والدین کی نیکی کا اثر اور پر تو اولاد پر پڑتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے واقعے میں مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو بلا معاوضہ سیدھا کر دیا تھا اور بعد میں اس کی حکمت یہ بیان فرمائی تھی:

﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ (سورۃ الکہف آیت نمبر ۸۲)

”ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔“

معلوم ہوا کہ والدین کے نام اور کام کا اثر اولاد پر بھی نمایاں ہوتا ہے اور والدین کی نیکی اولاد کے بھی کام آیا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مہدیؑ کا طور طریقہ اور عادات حضور ﷺ کے مشابہہ ہوں گی جیسا کہ صاحب مظاہر حق جدید، حدیث ”لا تذهب الدنيا“ کے تحت تحریر فرماتے ہیں۔

”حضور ﷺ کے مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں اس طرف بھی اشارہ

ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھ ان کا تعلق صرف نسبی اور نسلی نہیں ہوگا

بلکہ روحانی اور شرعی بھی ہوگا یعنی ان کا طور طریقہ اور ان کے عادات

و معمولات حضور ﷺ کے طور طریقے اور آپ کے عادات و

معمولات کے مطابق ہوں گے۔“ (مظاہر حق جدید: ج ۵ ص ۳۷)

امام مہدیؑ کی قیادت:

سیرت میں ایک وصف شجاعت بھی شمار ہوتا ہے جس کا اظہار عام طور پر میدان کارزار میں قیادت کی اعلیٰ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر ہوتا ہے، امام مہدیؑ جن لوگوں کو اپنے لشکر کا کمانڈر مقرر کریں گے اسی سے ان کے سیاسی تدبیر کا علم ہو جائے گا، یہ بات

نعیم بن حماد کی زبانی ملاحظہ ہو:

﴿قادة المهدي خير الناس، اهل نصرته وبيعته من اهل كوفان
واليمن وابدال الشام، مقلدته جبريل و ساقته ميكائيل محبوب
في الخلائق، يطفى الله تعالى به الفتنة العمياء وتامن الارض
حتى المرأة لتحج في خمس نسوة مامعهن رجل، لا يبقى شيئا
الا الله، تعطى الارض زكوتها والسماء بركتها﴾

(کتاب الفتن، ص ۲۵۰)

”امام مہدیؑ کے لشکر کے قائدین بہترین لوگ ہوں گے، ان کے
معاون اور ان کی بیعت کرنے والے کوفہ، بصرہ اور یمن کے لوگ
اور شام کے ابدال ہوں گے، ان کے لشکر کا ہر اول دستہ حضرت
جبریل علیہ السلام اور پیچھے کا محافظ دستہ حضرت میکائیل علیہ السلام
ہوں گے، وہ محبوب خلائق ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے
انتہائی خطرناک فتنہ کو ختم فرمائیں گے اور زمین میں ایسا امن قائم ہو
جائے گا کہ ایک عورت پانچ عورتوں کے ساتھ مل کر بغیر کسی مرد کی
موجودگی کے اطمینان سے حج کر لے گی، وہ صرف اللہ سے ڈرنے
والے ہوں گے، ان کے زمانے میں زمین اپنی پیداوار اور آسمان
اپنی برکتیں برسا دے گا۔“

امام مہدیؑ کا زمانہ:

مذکورہ بالا مضمون کے آخری جملہ کی وضاحت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ

عنه کی مروی حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض، لاتدع
السماء من قطرها شيئا الا صبته، ولا الارض من نباتها

شينا الا اخر جته حتى يتمنى الاحياء الاموات ﴿

(کتاب القن: ص ۲۵۲)

”امام مہدیؑ سے آسمان میں رہنے والے بھی راضی ہوں گے اور زمین کے باشندے بھی خوش ہوں گے، آسمان اپنے تمام قطرے بہا دے گا، زمین اپنی تمام پیداوار اگل دے گی یہاں تک کہ (خوشحالی دیکھ کر) زندہ لوگ، مردوں کی تمنا کرنے لگیں گے۔“

اسی مضمون کی روایت مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے۔ اور یہ حدیث اپنے مدلول کے لحاظ سے بہت واضح ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا زمانہ ایسی خوشحالی اور عام فراوانی کا ہوگا کہ ملائکہ بھی ان سے خوش ہوں گے اور زمین والے بھی، بارشیں کثرت سے ہوں گی اور زمین اپنی پوری پیداوار اگائے گی یہاں تک کہ اس قدر خوشحالی دیکھ کر اس زمانے کے لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش! ہمارے آباؤ اجداد بھی زندہ ہوتے اور اس خوش حالی سے لطف اندوز ہوتے۔

امام مہدیؑ کی سخاوت:

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی سخاوت اس قدر عام ہوگی کہ ہر ایک پر اسکی بارش بر سے گی اور اس قدر تمام ہوگی کہ پھر کسی سے سوال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿يكون في امتي المهدي ان قصر فسبع والافتسح،

تنعم فيه امتي نعمة لم يسمعوا بمثلها قط، تؤتى

اكلها ولا تترك منهم شيئا والمال يومئذ كدوس،

فيقوم الرجل فيقول يا مهدي! اعطني فيقول خذ ﴿

(الذکرہ: ص ۲۹۹)

”میری امت میں مہدی ہوں گے جو کم از کم سات یا نو سال

(خلیفہ) رہیں گے، ان کے زمانے میں میری امت ایسی نعمتوں اور فراوانیوں میں ہوگی کہ اس سے پہلے اس کی مثال بھی نہ سنی گئی ہوگی، زمین اپنی تمام پیداوار اگل دے گی اور کچھ بھی نہ چھوڑے گی اور اس زمانے میں مال کھلیان میں اناج کے ڈھیر کی طرح پڑا ہوگا چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے مہدی! کچھ مجھے بھی دیجئے! تو وہ اس سے فرمائیں گے کہ (حسب منشاء جتنا چاہو) لے لو۔“

اسی طرح حضرت ابوسعید خدریؓ ہی سے ایک اور روایت مروی ہے:

عن ابی سعید الخدری قال: خشینا ان یکون بعد نبینا ﷺ حدث، فسالنا النبی ﷺ قال ان فی امتی المہدی ینخرج یعیش خمساً او سبعا او تسعاً زید الشاک قال قلنا وما ذاک؟ قال سنین قال فیجئ الیہ الرجل فیقول یا مہدی اعطنی اعطنی قال فیحئی لہ فی ثوبہ ما استطاع ان یحملہ. (ترمذی حدیث نمبر ۴۴۴۲)

”حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہمیں حضور ﷺ کی وفات کے بعد پیش آنے والے حادثات کے خوف نے آگھیرا تو ہم نے اس سلسلے میں حضور ﷺ سے دریافت کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا (گھبرانے کی کوئی بات نہیں) میری امت میں مہدی کا خروج ہوگا جو کہ پانچ یا سات یا نو سال (بطور خلیفہ کے) زندہ رہیں گے۔ (سالوں کی تعداد میں راوی کو شک ہے۔) ہم نے عرض کیا کہ یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ فرمایا کئی سال پھر فرمایا کہ ایک آدمی ان کے پاس آ کر کہے گا کہ اے مہدی مجھے کچھ دیجئے مجھے کچھ دیجئے! تو وہ لپ بھر بھر کر اس کے کپڑے میں اتنا ڈال

دیں گے جس کو وہ اٹھا سکے۔“ یعنی کسی آدمی میں جتنا وزن اٹھانے کی ہمت ہو سکتی ہے۔ امام مہدیؑ اس سے کم نہیں دیں گے۔
 نیز حضرت ابو سعید خدریؓ ہی کی ایک مرفوع روایت میں یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ آئی ہے۔

﴿من خلفائکم خلیفۃ یحنبو المال حنیئا ولا یعدہ عدا﴾

(مسلم شریف: ۷۳۱۷)

”تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا لوگوں کو مال لپ بھر بھر کر دیں گے اور اس کو شمار بھی نہیں کریں گے۔“

روایات سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ جیسا شخص بھی پورا نہیں اتر سکا اور اس سے امام مہدیؑ ہی مراد ہیں۔

﴿حضرت امام مہدیؑ کی سیرت و اخلاق کریمانہ کا اجمالی نقشہ﴾

حضرت امام مہدیؑ علیہ الرضوان کی سیرت و اخلاق کریمانہ کا سید برزنجی نے ایک بہت عمدہ نقشہ کھینچا ہے جس کا ترجمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

”امام مہدیؑ حضور ﷺ کی سنت پر عمل کریں گے، کسی سوئے ہوئے شخص کی نیند خراب کر کے اسے جگائیں گے نہیں، ناحق خون نہیں بہائیں گے، ہاں! البتہ سنت کے خلاف کام کرنے والے سے جہاد کریں گے۔ تمام سنتوں کو زندہ کر دیں گے اور ہر قسم کی بدعت کو ختم کیے بغیر چین نہ لیں گے، آخِر زمانے میں ہونے کے باوجود دین پر اسی طرح قائم ہوں گے جس طرح ابتداء میں حضور ﷺ قائم تھے۔ ذوالقرنین سکندر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا کے فرمانروا ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے (عیسائیت کو مٹا دیں گے۔) زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، لوگوں کو بے حساب لپ بھر بھر کر مال دیں گے۔ مسلمانوں میں الفت، پیار و محبت اور نعمتوں کو لوٹا دیں گے، اور تقسیم بالکل

ٹھیک ٹھیک کریں گے، آسمان میں رہنے والے ملائکہ بھی ان سے راضی ہوں گے اور زمین پر بسنے والے جاندار بھی ان سے خوش ہوں گے، پرندے فضاؤں میں، وحشی جانور جنگلات میں اور مچھلیاں سمندروں میں ان سے خوش ہوں گی۔ امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گے حتیٰ کہ ایک منادی آواز دے گا کہ جس کو مال کی ضرورت ہو، وہ آکر لے جائے تو اس کے پاس صرف ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ مجھے ضرورت ہے، منادی اس سے کہے گا کہ تم خزانچی کے پاس جا کر اس سے کہو کہ مہدی نے مجھے مال دینے کا حکم دیا ہے چنانچہ وہ شخص خزانچی کے پاس آکر اسے پیغام پہنچا دے گا تو وہ کہے گا کہ تم حسب منشا جتنا چاہو لے لو، وہ شخص اپنی گود میں بھر بھر کر مال جمع کرنا شروع کر دے گا کہ اچانک اسے شرم سی محسوس ہوگی اور وہ اپنے دل میں کہے گا کہ تو امت محمدیہ کا سب سے زیادہ لالچی انسان ہے، یہ سوچ کر وہ شخص اس مال کو واپس کرنا چاہے گا تو اس سے وہ مال واپس نہیں لیا جائے گا اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ ہم لوگ کچھ دے کر واپس لینے والوں میں سے نہیں ہیں، ان کے زمانے میں تمام لوگ ایسی نعمتوں میں ہوں گے کہ اس سے پہلے اس کی مثال لوگوں نے سنی تک نہ ہوگی۔ بارشیں اس قدر کثرت سے ہوں گی کہ آسمان اپنا کوئی قطرہ پس انداختہ نہیں چھوڑے گا، اور زمین اتنی پیداوار اگائے گی کہ ایک بیج بھی ذخیرہ نہیں کرے گی، ان کے زمانے میں جنگیں ہوں گی، وہ زمین کے نیچے سے اس کے خزانوں کو نکال لیں گے اور شہروں کے شہر فتح کر لیں گے، ہندوستان کے بادشاہ ان کے سامنے پابند سلاسل پیش کیے جائیں گے اور ہندوستان کے خزانوں کو بیت المقدس کی آرائش و تزئین کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ لوگ ان کے پاس اس طرح آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ اور سردار کے پاس آتی ہیں حتیٰ کہ لوگ اپنی سابقہ نیک حالت پر واپس آجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے جو ان کے مخالفین کے چہروں اور کولہوں پر مارتے ہوں گے، ان کے لشکر کے سب سے آگے جبریل علیہ السلام اور حفاظت کی خاطر سب سے پیچھے میکائیل علیہ السلام ہوں گے، ان کے زمانے میں بھیڑیے اور بکریاں ایک ہی جگہ چریں گے، بچے سانپ اور بچھوؤں سے

کھیلیں گے اور وہ ان کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، انسان ایک مُد (خاص مقدار) بوئے گا اور اس سے سات سو کی پیداوار ہوگی۔ سود خوری، وباؤں کا نزول، زنا اور شراب نوشی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کی عمریں لمبی ہوں گی، امانتوں کی ادا نگہی کا اہتمام کیا جائے گا۔ شریروں کا رلوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضور ﷺ کی اولاد و اہل بیت سے بغض رکھنے والا کوئی نہ رہے گا، امام مہدیؑ محبوبِ خلائق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انتہائی خطرناک فتنے کی آگ کو بجھائیں گے۔ اور زمین میں اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت بغیر کسی مرد کے پانچ عورتوں کے ساتھ مل کر حج کر آئے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نیز انبیاء کرام علیہم السلام کے اسفار میں لکھا ہے کہ امام مہدیؑ کے فیصلوں میں ظلم و نا انصافی کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوگا۔“ (الاشاعۃ لاشراط الساعۃ: ص ۱۹۶-۱۹۷)

طاؤس سے منقول ہے کہ امام مہدیؑ اپنے عمال کی کڑی نگرانی کرنے والے، سخی اور مسکینوں پر رحم کرنے والے ہوں گے۔ (کتاب النہن: ص ۲۵۰)

الغرض! وہ تمام خوبیاں جو ایک عمدہ قائد اور اچھے امیر میں ہونی چاہئیں، وہ ان تمام سے متصف ہوں گے اور اخلاقِ رزلیہ سے پاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ حالت یکا یک بنادیں گے جیسا کہ اس سے قبل آپ یہ روایت پڑھ آئے ہیں کہ ”مہدی ہمارے گھر والوں میں سے ہوں گے جن کی اصلاح اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی کر دیں گے۔“

﴿ حضرت امام مہدیؑ کا حلیہ مبارک ﴾

حضرت امام مہدیؑ متوسط قد و قامت کے مالک، گندمی رنگ، کشادہ پیشانی، لمبی اور ستواں ناک والے ہوں گے، ابرو قوس کی طرح گول ہوگی، کھلتا ہوا رنگ ہوگا، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے اور بغیر سرمہ لگائے ایسا محسوس ہوگا کہ گویا سرمہ لگائے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات سید برزنجیؒ کی زبانی ملاحظہ ہوں۔

﴿ واما حلیتہ فانہ آدم ضرب من الرجال ربعة، اجلی

الجبهة اقسى الانف اشمہ، ازج ابلج، اعین اکحل

العینین، براق الشایا افرقها، فی خده الایمن خال اسود، یضی وجهه کانه کوب دری، کث اللحیة، فی کتفه علامة للنبی ﷺ، اذیل الفخذین، لونه لون عربی، وجسمه جسم اسرائیلی، فی لسانه ثقل، واذا ابطا علیه الکلام ضرب فخذہ الایسر بیده الیمنی، ابن اربعین سنة، وفی رواية ما بین الثلاثین الی اربعین، خاشع لله خشوع النسر بجناحیه، علیه عبايتان قطوانيتان يشبه النبی ﷺ فی الخلق لا فی الخلق ﴿(الاشاء: ص ۱۹۳-۱۹۵)

”امام مہدیؑ کا حلیہ یہ ہے کہ وہ انتہائی گندی رنگ، ہلکے پھلکے جسم والے، متوسط قد و قامت کے مالک، خوبصورت کشادہ پیشانی والے، لمبی ستواں ناک والے ہوں گے، ابرو قوس کی مانند گول اور رنگ کھلتا ہوا ہوگا، بڑے بڑی سیاہ قدرتی سرگیں آنکھوں والے ہوں گے، سامنے کے دونوں دانت انتہائی سفید اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ہوں گے (بالکل ملے ہوئے نہ ہوں گے) دائیں رخسار پر سیاہ تل کا نشان ہوگا، روشن ستارے کی طرح ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، گھنی داڑھی ہوگی، کندھے پر حضور ﷺ کی طرح کوئی علامت ہوگی کشادہ رانیں ہوں گی، رنگ اہل عرب کی طرح اور جسم اسرائیلیوں جیسا ہوگا، زبان میں کچھ ثقل ہوگا جس کی وجہ سے بولتے ہوئے لکنت ہوا کرے گی اور اس سے تنگ آ کر اپنی بانیں ران پر اپنا دایاں ہاتھ مارا کریں گے، ظہور کے وقت ۴۰ سال کی عمر ہوگی اور ایک روایت کے مطابق ۳۰ سے ۴۰ سال کے درمیان عمر ہوگی، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کرتے ہوئے پرندوں کی طرح اپنے بازو پھیلا دیا کریں گے، (اصل میں ”نسر“ گدھ کو کہتے

ہیں جس کا ترجمہ یہاں پرندہ کیا گیا ہے۔) اور دو سفید عبائیں
زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، اخلاق میں حضور ﷺ کے مشابہ
ہوں گے لیکن خلقی طور پر (مکمل) مشابہ نہیں ہو گے۔“

حضرت امام مہدیؑ کا حلیہ حضرت علیؑ سے بھی اسی طرح منقول ہے لیکن اس
میں کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں، اس کو نعیم بن حماد کی زبانی ملاحظہ فرمائیے:

﴿كث اللحية، اكحل العينين، براق الثنايا، في وجهه
خمال، اقنى اجلى، في كتفه علامة النبي ﷺ، يخرج
براية النبي ﷺ من مرط مخملة سوداء مربعة،
فيها حجر لم ينشر منذ توفي رسول الله ﷺ ولا
تنشر حتى يخرج المهدي، يمدّه الله بثلاثة آلاف من
الملككة، يضربون وجوه من خالفهم وادبارهم، يعث
وهو ما بين الثلثين والاربعين﴾ (کتاب الثمن: ص ۲۵۹)

”امام مہدیؑ کی ڈاڑھی گھنی ہوگی، بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں
گے، اگلے دو دانت انتہائی سفید ہوں گے، چہرے پر تل کا نشان ہو
گا، لمبی ستواں ناک والے ہوں گے، کندھے پر حضور ﷺ کی
علامت ہوگی، خروج کے وقت ان کے پاس حضور ﷺ کا چوکور،
سیاہ ریشمی روئیں دار جھنڈا ہوگا جس میں (ایسی روحانی) بندش ہو
گی کہ جس کی وجہ سے وہ حضور ﷺ کی وفات سے لے کر ظہور
مہدیؑ سے قبل کبھی نہیں پھیلایا جاسکا ہوگا، (ہلایا نہیں جاسکا ہوگا)
اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے جو ان
کے مخالفین کے چہروں اور کولہوں پر مارتے ہوں گے، ظہور کے
وقت ان کی عمر ۳۰ سے ۴۰ سال کے درمیان ہوگی۔“

﴿ حضرت امام مہدیؑ کی خلافت، علی منہاج النبوة ہوگی ﴾

حضرت امام مہدیؑ کی سیرت کا ایک اور نمایاں پہلو یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ خلافت علی منہاج النبوة قائم کریں گے جس سے دور نبوی اور خلفائے راشدین کے روح پرور زمانے کی یاد تازہ ہوگی چنانچہ اس سلسلے میں مشکوٰۃ شریف کی حضرت حذیفہؓ سے مروی روایت ملاحظہ ہو:

﴿عن النعمان بن بشير عن حذيفة قال قال رسول الله ﷺ تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا جبرية فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. قال حبيب فلما قام عمر بن عبدالعزيز كتبت اليه بهذا الحديث اذكره اياه وقلت ارجو ان تكون امير المؤمنين بعد الملك العاض والجبرية فسربه واعجبه يعني عمر بن عبدالعزيز رواه احمد والبيهقي في دلائل النبوة﴾ (مشکوٰۃ الصالح، ص ۳۶۱)

”نعمان بن بشیرؓ حضرت حذیفہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت رہے گی پھر اللہ اس کو اٹھالے گا اور طریقہ نبوت کے مطابق حسب منشاء خداوندی خلافت رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھالے گا، اس کے بعد کٹ کھانے والی حکومت ہوگی اور ارادۂ خداوندی کے مطابق رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھالے گا، اس کے بعد ظلم کی حکومت ہوگی اور حسب منشاء خداوندی

رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھالے گا اور دوبارہ خلافت علی منہاج النبوة قائم ہو جائے گی، یہ کہہ کر آپ ﷺ خاموش ہو گئے۔“

راوی حدیث حبیب کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو میں نے بغرض نصیحت ان کے پاس یہ حدیث لکھ بھیجی اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ ہی کاٹ کھانے والی اور ظالمانہ حکومت کے بعد وہ امیر المؤمنین ہیں (جس کے بارے میں دوبارہ خلافت علی منہاج النبوة کی پیشگوئی وارد ہے) یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز بہت مسرور اور خوش ہوئے۔“

اس حدیث میں دو مرتبہ خلافت علی منہاج النبوة کا ذکر ہے، پہلے مرتبہ تو نبوت کے بعد جس کا قیام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے ہو کر خلفاء راشدین پر جا کر منتہی ہو گیا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت، پھر جبری حکومت اور اس کے بعد دوبارہ خلافت علی منہاج النبوة کے قیام کا تذکرہ ہے اس دوسری خلافت کا قیام امام مہدیؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو گا چنانچہ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں:

﴿والممراد بہا زمن عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام


والمہدی رحمہ اللہ﴾ (مرقاۃ: ج ۱۰ ص ۱۰۹)

”اور اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رحمہ اللہ کا

زمانہ ہے۔“

تنبیہ: اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض حضرات نے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوة کے قیام کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کو اس حدیث کا مصداق گردانا ہے لیکن یہ ان حضرات کی اپنی رائے ہے، حدیث کا اصل محمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ الرضوان کا زمانہ ہے جیسا کہ ابھی آپ ملا علی قاریؒ کے حوالے سے ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

باب سوم



ظہور مہدیؑ کی علامات



حضرت امام مہدی رضوان اللہ علیہ کے ظہور کی تقریباً ۳۰ علامات، جن میں سے بعض ایسی ہیں کہ تخلیق کائنات سے لے کر اب تک ان کا ظہور نہیں ہوا۔

﴿علاماتِ ظہور مہدی﴾

ویسے تو حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کی بہت سی علامات ہیں جن کے ظہور پر ہر انسان سمجھ جائے گا کہ یہی مہدی موعود ہیں مثلاً امام مہدیؑ سے قبل سفیانی کا خروج وغیرہ۔ جس کی تفصیلات آئندہ آپ کے سامنے پیش ہوں گی۔ لیکن یہاں ان میں سے چند ایک ہی کو بیان کیا جائے گا جن میں سے گو کہ بعض سنداً ضعیف ہیں پھر بھی اکثر کے شواہد معتبر احادیث سے مل جاتے ہیں۔

علامت نمبر ۱:

امام مہدی علیہ الرضوان کے پاس حضور ﷺ کی قمیص مبارک اور جھنڈا ہوگا جس سے ان کی شناخت ہو سکے گی چنانچہ علامہ سید برزنجیؒ تحریر فرماتے ہیں:

﴿معہ قمیص رسول اللہ ﷺ، و سیفہ، و رایتہ من مرط مخملة معلمة سوداء فیہا حجر لم تنشر منذ توفی رسول اللہ ﷺ، ولا تنشر حتی یخرج المہدی، مکتوب علی رایتہ ”البیعة للہ“﴾ (الاشاء: ص ۱۹۸)

اس قسم کی ایک حدیث اس سے پہلے بھی کتاب النفن ص ۲۵۹ کے حوالے سے گزر چکی ہے، نواب صدیق حسن خان نے اپنی کتاب آثار القیامہ فی حج الکرامہ میں اس عبارت کا فارسی میں یوں ترجمہ کیا ہے:

”و اما علاماتے کہ شناختہ شود بانہا مہدی موعود علیہ السلام پس از انجملہ آنست کہ باوے قمیص و سیف و رایت رسول خدا صلی اللہ ﷺ باشد و منتشر نشد این رایت از وفات وصال اللہ ﷺ و نشود تا آنکہ بیرون آید مہدی، و مکتوب باشد بروے این لفظ ”البیعة للہ““

(آثار القیامہ: ص ۳۶۵)

”امام مہدیؑ کے پاس حضور ﷺ کی قمیص مبارک، تلواری مبارک اور سیاہ رنگ کا ریشمی روئیں دار جھنڈا ہوگا اور وہ جھنڈا (کسی روحانی) بندش کی وجہ سے حضور ﷺ کی وفات سے لے کر ظہور مہدی سے قبل نہیں پھیلا یا (ہلایا) جاسکا ہوگا، اور اس جھنڈے پر یہ الفاظ لکھے ہوں گے ”المہدیۃ للہ“۔“

علامت نمبر ۲:

اسی طرح حضرت امام مہدیؑ کی تائید و تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل سیاہ فگن ہوگا جس میں سے ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہوگی:

﴿هذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ﴾

”یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، لہذا ان کی اتباع کرو۔“

اور اس بادل میں سے ایک ہاتھ نکلے گا جو امام مہدیؑ کی طرف اشارہ کرے گا

کہ یہی مہدی ہیں، ان کی بیعت کرو۔ (الاشاء: ص ۱۹۸)

اور کتاب النتن میں اسی سے متعلق ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں (کہ

آسمان سے ندا اس طرح آئے گی)

﴿علیکم بفلان وتطلع کف تشیر﴾ (کتاب النتن: ص ۲۳۶)

”تم پر فلاں کی اتباع لازم ہے اور اس کی نشاندہی کے لیے ایک

ہاتھ ظاہر ہوگا جو ان کی طرف اشارہ کرتا ہوگا۔“

جبکہ نواب صدیق حسن خان نے خطیب اور ابو نعیم کے حوالے سے حضرت ابن

عمر رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کرتے ہوئے کہا ہے:

”و در روایتی آمدہ کہ فرشتہ باشد بر سروے و ندا کند کہ ہذا خلیفۃ اللہ

المہدی فاسعموا واطیعوہ۔“ (آثار القیامہ: ص ۳۶۶)

”اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدیؑ کے سر پر (بازل کی

طرح) ایک فرشتہ ہوگا جو یہ نداء کرتا ہوگا کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں لہذا ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔“

علامت نمبر ۳-۴:

امام مہدی علیہ الرضوان کی شناخت کے لیے حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ امام مہدیؑ ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے وہ آپ کے سامنے آکر گر پڑے گا اور ایک درخت سے ایک شاخ توڑ کر زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سرسبز ہو کر برگ و بار لانے لگے گی۔ (آثار القیامہ: ص ۳۶۶)

سید برزنجیؒ نے بھی اس علامت کو ذکر کیا ہے لیکن ان کے بیان سے یہ دو الگ الگ علامتیں ثابت ہوتی ہیں چنانچہ مندرجہ ذیل عبارت میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔

﴿ومنها انه بغرس قضيا یا بسا فی ارض یابسة

فیخضر ویورق، ومنها انه یطلب منه آية فیومی بیده الی

طیر فی ہواء فیسقط علی یدہ﴾ (الاشاء: ص ۱۹۸)

”اور ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مہدی ایک خشک

بانس خشک زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سرسبز ہو کر برگ و بار

لانے لگے گا اور ایک علامت یہ ہے کہ مہدی سے نشانی کا مطالبہ کیا

جائے گا تو وہ اپنے ہاتھ سے فضاء میں اڑتے ہوئے ایک پرندے کی

طرف اشارہ کریں گے تو وہ ان کے سامنے آگرے گا۔“

علامت نمبر ۵:

حضرت امام مہدیؑ کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے

لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس

پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا جیسا کہ عنقریب بالتفصیل آتا ہے۔

مقام بیداء میں لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تخریج کی ہیں۔ حوالہ کے لیے ملاحظہ ہو۔

(مسلم شریف: حدیث نمبر ۷۲۳۰ تا ۷۲۳۳، ابن ماجہ: حدیث نمبر ۶۳ تا ۶۵، ۶۷)

فائدہ:

سفیانی اور اس کے لشکر کے متعلق آپ پوری تفصیلات عنقریب پڑھیں گے کہ وہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء و فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا کیونکہ ”لکل فرعون موسیٰ“ کے تحت حضرت امام مہدیؑ کا ظہور ہو چکا ہوگا جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے مغرب سے روانہ ہوگا لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت ”بیداء“ نامی جگہ، جو حرمین کے درمیان ہے، پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ تحریر فرماتے ہیں:

﴿وهذه هي فتنة امارة السفیانی احدی علامات خروج

المهدی وقد وردت فيه احادیث كثيرة متواترة المعنی﴾

(العلیق الصبح: ج ۶ ص ۲۰۰)

”اس لشکر کا زمین میں دھنسا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی اور سفیانی کا

خروج دراصل امام مہدیؑ کے ظہور کی علامت ہوگا اور اس سلسلے میں

بہت سی احادیث تواتر معنوی کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔“

اور اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر

کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا چنانچہ حضرت کاندھلویؒ ہی تحریر فرماتے ہیں:

﴿فلا ینجو منهم الا المخبر عنهم﴾

(العلیق الصبح: ج ۶ ص ۲۰۰)

’ان تمام لوگوں میں سے صرف ایک مخبر زندہ بچے گا۔‘

لیکن اس روایت پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس میں خروج سفیانی کے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مغرب سے خروج کرے گا جبکہ طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں حضرت ام حبیبہؓ سے اس سلسلے کی روایت ذکر کی ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ وہ مشرق سے خروج کرے گا اور یہ بظاہر تضاد ہے۔

سید برزنجیؒ نے اس تعارض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس کی تاویل یوں کی جاسکتی ہے کہ سفیانی کی طرف سے بھیجا جانے والا لشکر روانہ تو عراق (مغرب) سے ہوگا لیکن چونکہ اس لشکر میں اہل شام بھی ہوں گے اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض مقامات پر اس لشکر کو شامی (مشرقی) کہہ دیا گیا ہے۔ (الاشامہ: ص ۲۰۸) اور حضرت کاندھلویؒ نے بھی التعلیق الصبح ج ۶ ص ۲۰۱ پر تقریباً یہی تحریر فرمایا ہے۔

یہی نہیں کہ امام مہدیؑ کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہوگا بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا اور چہار اطراف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملہ کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدیؑ کا ظہور ہو جائے گا۔

علامت نمبر ۶:

حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کی ایک اور علامت جو ان کی تائید کے لیے بطور مہر تصدیق کے ظاہر کی جائے گی اور ان کی شناخت میں کسی کو کوئی شبہ اور تردد نہیں رہے گا، یہ ہوگی کہ آسمان سے ایک منادی امام مہدیؑ کا نام لے کر لوگوں کو ان کے ساتھ جانے اور ان کی مدد کرنے کی طرف ابھارے گا۔ چنانچہ سید برزنجیؒ تحریر فرماتے ہیں:

﴿ومنها انه ينادى مناد من السماء، ايها الناس! ان الله قد قطع عنكم الجبارين والمنافقين واشياعهم، وولاكم خير امة محمد ﷺ، فالحقوا بمكة فانه المهدي واسمه احمد بن عبدالله، وفي رواية، وولاكم الجابر خير امة محمد ﷺ، الحقوه بمكة فانه المهدي واسمه محمد بن عبدالله﴾ (الاشاع: ص ۱۹۸، ص ۲۰۹)

”اور ان علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان سے ایک مناوی آواز دے گا کہ اے لوگو! تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے ظالموں، منافقوں اور ان سے محبت رکھنے والوں سے تمہیں نجات دی اور امت محمدیہ کا بہترین فرد تم پر امیر مقرر کیا لہذا اب تم مکہ مکرمہ جا کر اس سے مل جاؤ، وہ مہدی ہیں اور ان کا نام احمد بن عبد اللہ ہے اور ایک روایت میں ان کا نام محمد بن عبد اللہ مذکور ہے۔“

اس علامت کو نواب صدیق حسن خان نے بھی آثار القیامہ ص ۳۶۶ پر ذکر کیا ہے لیکن اس میں امام مہدیؑ کے نام سے متعلق ”احمد بن عبد اللہ“ والی روایت کا ذکر نہیں کیا بلکہ ”محمد بن عبد اللہ“ والی روایت پر ہی جزم ظاہر کیا ہے اور یہی مشہور بھی ہے۔

علامت نمبر ۷:

زمین سونے کے ستونوں کی طرح اپنے جگر کے ٹکڑے باہر نکال دے گی۔

(الاشاع: ص ۱۹۸، آثار القیامہ: ص ۳۶۶، ترمذی ۲۲۰۸)

سید برزنجی نے اس مقام پر ”سونے کے ستونوں“ کا ذکر کیا ہے جبکہ اپنی اسی کتاب کے ص ۲۳۱ پر ”سونے اور چاندی کے ستونوں“ کا ذکر کیا ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی روایت میں ”سونے اور چاندی کے ستونوں“ ہی کا ذکر ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

﴿عن عبد الله بن مسعود قال ان هذا الدين قديم، وانه صائر الى النقصان وان اماره ذلك اليوم ان تقطع الارحام، ويؤخذ المال بغير حقه وتسفك الدماء، ويشتكى ذوا القرابة. قرابته لا يعود عليه بشئ. ويطوف السائل لا يوضع في يده شئ فينما هم كذلك اذ خارت الارض خوار البقر يحسب كل اناس انها خارت من قبلهم فينما الناس كذلك اذ قذفت الارض بافلاذ كبدها من الذهب والفضة لا ينفع بعد شئ منه لا ذهب ولا فضة﴾ (الاشاء: ص ۲۴۱)

”حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ دین مکمل ہو چکا اور اب یہ نقصان کی طرف جائے گا جس کی علامت یہ ہوگی کہ قطع رحمی، لوگوں کا مال ناحق لے لینا اور خون بہانا عام ہو جائے گا، قرابت دار بیمار ہوگا لیکن کوئی اس کی عیادت کرنے نہ جائے گا، سائل بار بار چکر لگائے گا لیکن کوئی اس کے ہاتھ پر کچھ نہ رکھے گا۔ اس دوران زمین سے گائے کی آواز کی طرح آواز نکلے گی، تمام لوگ اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ اسی اثناء میں زمین اپنے جگر کے ٹکرے یعنی ”سونے چاندی کے ستون“ نکال باہر پھینکے گی لیکن اب یہ سونا چاندی کسی کو کچھ نفع نہ دے گا۔“

علامت نمبر ۸:

لوگوں کے دل غمی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے اپنی برکتوں کا ظہور کرے گی (جیسا کہ امام مہدی علیہ الرضوان کی سیرت کے بیان میں گزرا)

علامت نمبر ۹:

امام مہدیؑ خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ نکال کر اس کو فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے۔ (الاشاعت: ص ۱۹۹) اور خانہ کعبہ کے اس مدفون خزانے کو، جو امام مہدیؑ تقسیم فرمائیں گے، ”رتاج الکعبہ“ کہا جاتا ہے۔ (آثار القیامہ: ص ۳۶۶)

علامت نمبر ۱۰:

حضرت امام مہدیؑ کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدیؑ کو تابوت سکیئہ (جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی بایں طور آیا ہے۔ ”وقال لهم نبیهم ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم“ (البقرہ: ۲۴۸) مل جائے گا جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدیؑ کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے چنانچہ نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں:

”واذا نجله آنکه تابوت سکیئہ را از غار انطاکیہ یا از بحیرہ طبریہ بر آورده در بیت المقدس نہد و یہود بدیدن وے مسلمان شوند الا القلیل منهم۔“ (آثار القیامہ: ص ۳۶۶) یہی بات (الاشاعت: ص ۱۹۹) پر بھی ہے۔“

”مجملہ ان علامات کے ایک علامت یہ بھی ہے کہ امام مہدیؑ تابوت سکیئہ کو انطاکیہ کے کسی غار یا بحیرہ طبریہ سے نکال کر بیت المقدس میں رکھ دیں گے جس کو دیکھ کر سوائے چند ایک کے باقی سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔“

علامت نمبر ۱۱:

قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کا پھٹ کر بارہ

ہموار راستے بنانا صراحتاً مذکور ہے جس کو ”انفلاقِ بحر“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، بعینہ اسی طرح حضرت امام مہدیؑ کے زمانے میں انفلاقِ بحر ہوگا جیسا کہ اس کی تفصیلات آگے آرہی ہیں۔

(الاشاعہ: ص ۱۹۹)

علامت نمبر ۱۲:

مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا (ظاہر ہے کہ جھنڈے لشکر کے ساتھ ہوتے ہیں) اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آوی ہوگا چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ:

﴿علامة خروج المهدي الوية تقبل من المغرب، عليها

رجل اعرج من كندة﴾ (کتاب الفتن: ص ۲۳۰)

”امام مہدیؑ کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لشکر آ شخص ہوگا۔“

علامت نمبر ۱۳:

مطر الوراق نے ظہور امام مہدیؑ کی علامت کفر کا پھیل جانا بیان کی ہے۔ چنانچہ نعیم بن حماد روایت کرتے ہیں:

﴿لا يخرج المهدي حتى يكفر بالله جهرة﴾

(کتاب الفتن: ص ۲۳۱)

”امام مہدیؑ کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ علانیۃً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کیا جائے لگے۔“

علامت نمبر ۱۴:

حضرت امام مہدیؑ کے ظہور سے قبل قتل و غارت گری اس قدر عام ہو جائے گی

کہ ہرنو میں سے سات افراد قتل ہو جائیں گے چنانچہ ابن سیرینؒ سے نعیم بن حماد نے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے:

﴿لا يخرج المهدي حتى يقتل من كل تسعة سبعة﴾

(کتاب الفتن: ص ۲۳۱)

اسی طرح کی ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی بایں الفاظ منقول ہے:

﴿لا يخرج المهدي حتى يقتل ثلث، ويموت ثلث،

ويبقى ثلث﴾ (حواہ بالا)

”امام مہدیؑ کا ظہور نہیں ہوگا یہاں تک کہ ایک تہائی افراد قتل ہو جائیں گے، ایک تہائی اپنی طبعی موت مر جائیں گے اور ایک تہائی باقی بچیں گے۔“

اس کی مزید تفصیلات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی۔ انشاء اللہ۔

علامت نمبر ۱۵:

ظہور امام مہدیؑ سے قبل لوگوں میں افلاس و تنگدستی اس قدر پھیل جائے گی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لونڈی کو اس کے وزن کے برابر غلہ میں بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا جیسا کہ کتاب الفتن: ص ۲۳۲ پر اس قسم کی روایت موجود ہے۔

علامت نمبر ۱۶:

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدیؑ کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ (بخاری شریف: ۳۳۳۹، مسلم ۳۹۲) لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب نبوت و رسالت پر کوئی حرف نہیں آئے گا اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز ادا کی، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں تو اپنی

زندگی کی آخری تمام باجماعت نمازیں ادا فرمائیں لیکن اس سے آپ کے منصب نبوت و رسالت میں کوئی کمی نہیں آئی۔

اور جیسا کہ بیان ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام مہدیؑ کی اقتداء کرنا اس امت کی عند اللہ عزت و شرافت کی دلیل ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات آپ اسی رسالے کے باب ششم میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

علامت نمبر ۱:

حضرت امام مہدیؑ کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اخلاق و عادات اور سیرت میں تو حضور ﷺ کے مشابہ ہوں گے ہی، حلیہ میں بھی کسی قدر مشابہت رکھتے ہوں گے البتہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی جس کی وجہ سے وہ تنگ آ کر کبھی کبھی اپنی ران پر ہاتھ مارا کریں گے جیسا کہ بانفصیل گزرا، یہاں بھی اس سلسلے کی ایک روایت آپ ملاحظہ فرمائیں، جس کو علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاویٰ میں حضرت حدیقہؒ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا الْيَوْمَ وَاحِدٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا اسْمَهُ

اسْمِي وَخَلَقَهُ خَلْقِي يَكْنِي اَبَا عَبْدِ اللَّهِ﴾ (الحاوی: ج ۲ ص ۷۶)

”اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے تب بھی اللہ

ایک آدمی کو بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہہ ہوگا

اور اس کی کنیت ابو عبد اللہ ہوگی۔“

علامت نمبر ۱۸:

ظہور امام مہدیؑ کی علامت کے طور پر ”دریائے فرات کا پانی ختم ہو جائے گا

اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔“ (الاشاء: ص ۱۹۹)

چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے:

﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ الْفِرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ

يقتل عليه الناس فيقتل تسعة

اعشارهم ﴿(الاشاع: ص ۲۳۹)

”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات کا پانی ختم ہو کر اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے ہو جائے۔ لوگ اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے اتناڑیں گے کہ ہر دس میں سے نو آدمی قتل ہو جائیں گے۔“

اس حدیث سے ملتے جلتے الفاظ بخاری، مسلم اور ابوداؤد میں بھی ملتے ہیں۔

چنانچہ بخاری شریف میں یہ حدیث ان الفاظ سے مروی ہے:

﴿يوشك الفرات ان يحسر عن كنز من ذهب فمن

حضره فلأيا خدمته شيئا﴾ (بخاری شریف: حدیث نمبر ۱۱۹، مسلم

شریف: ۴۲۷۳، ابوداؤد: ۴۳۱۳، ابن ماجہ: ۴۰۴۶)

نیز اس موضوع کی احادیث آپ مسلم شریف ہی میں مندرجہ ذیل مقامات پر

بھی دیکھ سکتے ہیں:

(۱) حدیث نمبر ۴۲۷۲

(۲) حدیث نمبر ۴۲۷۳

(۳) حدیث نمبر ۴۲۷۵

(۴) حدیث نمبر ۴۲۷۶

ممکن ہے کہ اس سے قبل علامت نمبر ۷ میں زمین سے جو سونے چاندی کے

ستونوں کا برآمد ہونا مذکور ہوا ہے اس سے یہی مراد ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دو الگ الگ

واقعے ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

علامت نمبر ۱۹:

حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کی ایک عجیب و غریب علامت جو کہ سائنسی نقطہ نظر

کے بالکل خلاف ہوگی کہ جس سال ان کا ظہور مقدر ہوگا اس کے رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور اسی رمضان کی پندرہ تاریخ کو سورج گرہن ہوگا اور یہ دونوں چیزیں تخلیق کائنات سے لے کر اب تک اس طرح ظہور پذیر نہیں ہوئیں کہ کسی مہینے کی پہلی رات کو چاند گرہن ہو پھر اس کی پندرہ تاریخ کو سورج گرہن ہو جائے کیونکہ حساسی نقطہ نظر اور جدید فلکیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی مہینے کی ۱۳، ۱۴، ۱۵ تاریخوں کے علاوہ چاند گرہن ممکن نہیں۔

اور اتفاق کی بات ہے کہ اس سال (۱۴۲۳ھ/۲۰۰۲ھ) کے رمضان المبارک میں چاند گرہن اور سورج گرہن کا واقعہ پیش آچکا ہے۔ لیکن اس کی نوعیت یہ تھی کہ چاند گرہن نصف رمضان کو اور سورج گرہن آخر رمضان کو ہوا اور یہ فلکیات کی رو سے ممکن ہے اور اس سے قبل بھی کئی مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسوف و خسوف ہوا ہے، لیکن مذکورہ بالا علامت کے طور پر نہ ہونے کی وجہ سے ظہور مہدی کی علامت پوری نہ ہو سکی کیونکہ یہ دونوں علامتیں ایسی ہیں کہ تخلیق کائنات سے لے کر اب تک ان کا ظہور نہیں ہو سکتا چنانچہ علامہ ابن حجر ہیتمیؒ کی تحریر فرماتے ہیں:

﴿لمهدینا آیتان لم تکونا منذ خلق الله السموات
والارض، ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان
وتنکسف الشمس فی النصف منه﴾

(القول المختصر: ص ۵۷، الاشارة: ص ۱۹۹، الحاوی: ج ۲ ص ۷۸)

اس کا ترجمہ وہی ہے جو اوپر بیان ہو چکا۔

مشہور ماہر فلکیات اور جامعہ اشرفیہ کے سابق شیخ الحدیث مولانا محمد موسیٰ روحانی بازیؒ اپنی کتاب ”فلکیات جدیدہ“ میں ”سیروس“ کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں:

”قدیم ہیئت کے ماہرین نے کسوف و خسوف کے اوقات کے انضباط کے لیے ایک ضابطہ وضع کیا ہے اسے سیروس کہتے ہیں یہ آج تک مسلم صحیح سمجھا جاتا ہے وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر آج کسوف یا خسوف ہو تو ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ ایام کے بعد بالفاظ دیگر ۱۸ سال ۳/۱/۱۱

دن کے بعد پھر اس کا اعادہ ہوگا البتہ سابقہ مقام پر ان کا نظر آنا ضروری نہیں۔ خسوف و کسوف کی تاخیر کا اوسط ۸ گھنٹہ ہے، لہذا تین دورہ سیروں کے بعد وہ پھر تقریباً انہی مقامات پر نظر آئیں گے۔“

(فلکیات جدیدہ: ص ۲۳۷)

یہ ضابطہ لکھنے کے بعد حضرت نے ”خسوف قمر کی تشریح“ کا عنوان قائم کر کے تحریر فرمایا ہے کہ:

”سابقہ بیان سے واضح ہوا کہ خسوف ایام استقبال یعنی ۱۳، ۱۴، ۱۵

تاریخوں کے علاوہ ناممکن ہے۔“ (فلکیات جدیدہ: ص ۲۳۸)

بعض حضرات کو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کی اس علامت میں تردد پیش آیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے چنانچہ ماہنامہ البلاغ کے شمارہ صفر ۱۳۲۲ھ میں مولانا عمر فاروق لوہاروی کا ایک مضمون ”کیا ظہور مہدی ۲۰۰۳ء میں؟“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے جس میں موصوف نے اس بات کی پرزور اور مدلل تردید کی ہے کہ امام مہدیؑ کے ظہور کے لیے ماہ و سن کی تعیین درست نہیں۔ یہاں تک تو بات صحیح تھی۔ لیکن آگے موصوف اس تردید میں ماہرین فلکیات کی رائے پیش کر کے جو بات سمجھے ہیں، درحقیقت اس میں انہیں اشتباہ ہوا ہے۔

چنانچہ موصوف فنی اعتبار سے گہن والی روایت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مذکورہ فنی وجہ کی وجہ سے یہ روایت پایہ اعتبار سے گر جاتی ہے

اس لیے ظہور مہدیؑ جیسے اہم مسئلہ کے لیے اس کو بطور دلیل قرار

نہیں دیا جاسکتا ہے اور نہ اس سے یہ عقیدہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ

حضرت مہدیؑ کے وقت میں ایسے گہنوں کا ہونا ضروری ہے اور وہ

گہن حضرت مہدیؑ کی علامت ہیں۔“ (البلاغ: ص ۳۶)

موصوف کی یہ عبارت اس قدر واضح ہے کہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں اور

ان کا یہ مدعا واضح ہے کہ اس سورج گہن اور چاند گہن کو ظہور مہدیؑ کی علامت نہیں قرار دیا

جاسکتا، حالانکہ یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ امام مہدیؑ کے ظہور کے لیے ماہ و سن کی تعیین درست نہیں لیکن سرے سے اس علامت کا انکار کر دینا ناروا ہے جو آغاز تخلیق سے لے کر اب تک رونما ہی نہیں ہوئی جیسا کہ یہ بات پیچھے بیان ہوئی اور علامت تو ہوتی ہی خلاف عادت اور خرق عادت کے طور پر ہے۔

علامت نمبر ۲۰:

صرف یہی نہیں کہ امام مہدیؑ کے ظہور کے وقت چاند گرہن ایک مرتبہ ہوگا بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال رمضان کے مہینے میں دو مرتبہ چاند گرہن ہوں گا، ایک مرتبہ تو رمضان المبارک کی پہلی رات میں ہوگا اور دوسرا اس کے علاوہ ہوگا اور ایک مہینے میں کئی مرتبہ گرہن ہونا جدید فلکیات کی رو سے ناممکن نہیں۔

علامت نمبر ۲۱:

حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کے وقت ایک اور آسمانی علامت کا ظہور ہوگا چنانچہ سید برزنجی تحریر فرماتے ہیں:

﴿و منها طلوع نجم له ذنب یضیء﴾ (الاشاء: ص ۱۹۹)

”اور ان علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک روشن دم دار تارا ظاہر ہوگا“

حسب بیان سید موصوف اس کا وقوع ہو چکا ہے لیکن ایک دفعہ وقوع سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوبارہ اس کا وقوع نہ ہوگا اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دم دار کوئی الگ نوعیت کا ہو۔

علامت نمبر ۲۲:

مشرق کی طرف سے ایک انتہائی عظیم آگ کا تین یا سات راتوں تک مسلسل ظاہر ہونا بھی علامات ظہور مہدی میں شمار کیا گیا ہے۔ (حوالہ بالا)

علامت نمبر ۲۳:

آسمان پر انتہائی گھٹا ٹوپ تارکی کا چھا جانا۔ (الاشاء: ص ۲۰۰)

علامت نمبر ۲۴:

آسمان کا انتہائی سرخ ہو جانا اور اس سرخی کا افق پر پھیل جانا۔

یاد رہے کہ افق کی یہ سرخی عام معمول کی سرخی نہیں ہوگی بلکہ اس سے ہٹ کر ہوگی

نیز سیاہی اور سرخی کا چھا جانا دو الگ الگ وقتوں میں ہوگا نہ کہ ایک ہی وقت میں۔ (حوالہ بالا)

علامت نمبر ۲۵:

آسمان سے ایک ایسی آواز کا آنا جو تمام اہل زمین سن لیں گے اور عجیب تر

بات یہ ہوگی کہ وہ آواز ہر زبان والے کو اس کی اپنی زبان میں سنائی دے گی۔ (چنانچہ

عربی کو عربی میں، پنجابی کو پنجابی میں اور پٹھان کو پشتو میں، غرضیکہ ہر ایک کو وہ آواز اسی کی

مادری زبان میں سنائی دے گی اور قدرت خداوندی کے سامنے ایسا ہونا بعید نہیں کیونکہ:

”ان اللہ علی کل شیء قدير“۔ (بحوالہ مذکورہ)

علامت نمبر ۲۶:

شام کی ”حرستا“ نامی بستی کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ (حوالہ بالا)

اس سلسلے میں سید برزنجی نے ابن عساکر کے حوالہ سے ایک روایت باس الفاظ

نقل کی ہے:

﴿لا يخرج المهدي حتى يخسف بقربة بالغوطة تسمى

حرستا﴾ (الاشاء: ص ۲۴۱)

”امام مہدی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ غوطہ کی

حرستا نامی بستی زمین میں دھنسا نہ دی جائے۔“

علامت نمبر ۲۷:

نفس زکیہ کا قتل بھی ظہور مہدی کی علامات میں شمار کیا گیا ہے۔ (الاشاء: ص ۲۳۹)

چنانچہ مجاہد کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک صحابی رسول نے یہ حدیث بیان کی:

﴿اذا قتلت النفس الزكية غضب عليه من في السماء

ومن في الارض فياتي الناس المهدي فرؤه كما تزف

العروس الى زوجها ليلة عرسها﴾ (بحوالہ مذکورہ)

”جب نفس زکیہ شہید ہو جائیں گے تو ان لوگوں پر آسمان و زمین

والے غضب ناک ہو جائیں گے، پھر لوگ امام مہدیؑ کے پاس

آ کر انہیں تیار کریں گے، جیسے دلہن کو شب زفاف میں اس کے

خاوند کے لیے تیار کیا جاتا ہے“

فائدہ:

اگر آپ تاریخ اسلام پر ایک اجمالی نظر ڈالیں تو آپ کو بنو عباس کے زمانہ

خلافت میں نفس زکیہ نامی ایک شخص کا حوالہ ملے گا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں

سے تھے اور ان کا نسب تین واسطوں سے حضرت علیؑ سے جا ملتا ہے۔ ان کا پورا نام ”محمد

انصاف الزکیہ بن عبداللہ الحنفی بن الحسن الحنفی بن الحسن بن علیؑ“ ہے، اہل مدینہ نے ان

سے بیعت خلافت لی تھی لیکن یہ خلافت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور خلیفہ منصور عباسی

کے زمانے میں موسیٰ بن عیسیٰ نے ان کو شہید کر دیا تھا۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ روایات مہدی میں جس نفس زکیہ کا بار

بار ذکر آتا ہے اس سے مراد آئندہ پیدا ہونے والے نفس زکیہ ہیں۔ خلیفہ منصور عباسی

کے زمانے کے نفس زکیہ مراد نہیں کیونکہ اگر وہی مراد لیے جائیں تو پھر امام مہدیؑ کا ظہور

کبھی کا ہو چکا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک ہی نام کے دو الگ شخص ہیں۔

علامت نمبر ۲۸:

خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا آنا۔

اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے

فرمایا:

﴿یاتی قوم من قبل المشرق معہم رایات سود فیسالون الخیر فلا یعطونه فیقاتلون فینصرون فیعطون ماسالوا فلا یقبلونه حتی یدفعوها الی رجل من اہل بیتی فیملؤها قسطا کما ملؤها جورا فمن ادرك ذلك منکم فلیاتہم ولو حبوا علی الثلج﴾ (الاشاء: ص ۲۳۰)

”مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ (ضرورت کی وجہ سے) مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے اب وہ لوگ ان کے مطالبہ کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین رسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا سوتھ میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے۔“

علامت نمبر ۲۹:

ایک کان کے پاس لوگوں کا دھنس جانا۔

اس سلسلے میں حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مندرجہ ذیل

روایت نقل کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

﴿تخرج معادن مختلفة، معدن معھا قریب من الحجاز

یاتیہ شرار الناس یقال له فرعون فیینما ہم یعملون فیہ

اذ حسر عن الذهب فاعجبهم معمله فينما هم
 كذلك اذ خسف به وبهم. ﴿ (الاشاء: ص ۲۳۱)
 ”(قیامت کے قریب مختلف علاقوں سے) مختلف (دھاتوں کی)
 کانیں برآمد ہوں گی، جن میں سے ایک کان حجاز کے قریب بھی
 ظاہر ہوگی۔ اس کے حصول کے لیے ایک بدترین آدمی جس کا لقب
 (ہی کثرتِ ظلم و ستم کی وجہ سے) فرعون پڑ گیا ہوگا، آئے گا، (اور
 لوگوں کو اس میں کام کرنے پر لگا دے گا) لوگ اس میں کام کر
 رہے ہوں گے کہ سونے کی ایک اور کان ظاہر ہوگی، اس کو دیکھ کر وہ
 ابھی خوش ہی ہو رہے ہوں گے کہ وہ اس کان سمیت زمین میں
 دھنسا دیئے جائیں گے۔“

علامت نمبر ۳۰:

ظہور مہدیؑ پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی
 تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے جس کی وجہ بظاہر وقت میں بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا
 چنانچہ حضرت سید برزنجیؒ فرماتے ہیں:

﴿ومنها طلوع القرن ذی السنین﴾ (الاشاء: ص ۲۳۲)

اور اس کی تائید ترمذی شریف کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضور

اکرم ﷺ نے فرمایا:

﴿لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة

كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كالיום

ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضمة بالنار﴾

(رواہ الترمذی، مشکوٰۃ: ص ۳۷۰)

”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو

جائے (اس تیزی سے نہ گزرنے لگے کہ) سال مہینہ کے برابر،
 مہینہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر اور
 ایک گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے“

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاریؒ نے امام خطابیؒ کا یہ قول نقل

فرمایا ہے:

﴿قال الخطابی ویكون ذلك في زمن المهدي
 او عيسى عليه الصلوة والسلام او كليهما قلت والاخير
 هو الاظهر وظهور هذا الامر في خروج الدجال وهو في
 زمانهما﴾ (مرقاۃ المفاتیح: ج ۱۰ ص ۱۶۹)

”امام خطابیؒ نے فرمایا ہے کہ ایسا امام مہدیؑ یا حضرت عیسیٰؑ یا دونوں
 کے زمانے میں ہوگا، میں کہتا ہوں کہ آخری قول ہی زیادہ ظاہر ہے
 کیونکہ یہ معاملہ خروج دجال کے وقت پیش آئے گا اور دجال کا
 خروج ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں ہوگا۔“

باب چہارم

ظہور مہدیؑ سے قبل کے واقعات

خروج سفیانی، سفیانی کا نام، حلیہ، کردار،
کیفیت، خروج، فتنہ فساد پھیلانا۔ وغیرہ

﴿ظہور مہدیؑ سے قبل کے واقعات﴾

چونکہ حضرت امام جہدی رضوان اللہ علیہ کا ورود مسعود قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے اس لیے ارتباط کی غرض سے ان کے ورود سے قبل کے واقعات کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

خروج سفیانی:

حضرت امام مہدیؑ کے ظہور سے قبل عرب و شام میں حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کو قتل کرے گا، حسب بیان سید برزنجی یہ شخص خالد بن یزید بن ابی سفیان کی نسل سے ہوگا۔

(ترجمان السنۃ: ج ۳ ص ۳۷۲، کتاب البرہان ج ۲ ص ۲۳۹ بروایت حضرت علیؑ)

شیخ نعیم بن حماد نے بھی سفیانی کے خالد بن یزید بن ابی سفیان کی نسل سے ہونے کی روایت نقل کی ہے جس میں اس کا کچھ حلیہ اور کیفیت خروج بھی مذکور ہے۔

”سفیانی، خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہوگا، یہ شخص بھاری بھر کم جسم والا ہوگا، چہرے پر چیچک کے آثار ہوں گے، آنکھ میں سفید داغ کا نشان ہوگا، دمشق کے نواحی علاقوں میں سے ایک وادی سے خروج کرے گا جس کا نام ”وادی یابس“ ہوگا۔ وہ سات آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ خروج کرے گا، جن میں سے ایک کے پاس ایک جھنڈا بھی ہوگا۔ لوگ اس کے جھنڈے تلے مدد آنے کا خیال کریں گے اور اس کے آگے آگے تیس میل چلتے ہوں گے، جو آدمی بھی اس جھنڈے کو سرنگوں کرنا چاہے گا وہ خود ہی شکست سے دوچار ہوگا۔“ (کتاب الفتن: ص ۱۸۹)

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ”ابوسفیان کی اولاد میں سے ایک شخص وادی یابس میں سرخ جھنڈوں کے ساتھ خروج کرے گا جس کے بازو اور پنڈلیاں پتلی ہوں گی، گرون لمبی ہوگی، انتہائی زورورنگ ہوگا اور اس پر عبادت کے آثار نمایاں ہوں گے۔“
(کتاب الفتن: ص ۱۹۰)

نیز حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں:
﴿یتحرک بایلباء رجل اعور العین، فیکثر الهرج،
ویحل النساء وهو الذی یبعث بجیش الی المدینة﴾
(کتاب الفتن: ص ۲۹۳)

”ایلباء میں ایک کاٹا شخص متحرک ہوگا جو کثرت سے قنہ پھیلائے گا اور عورتوں کو حلال کر دے گا اور یہی مدینہ کی طرف ایک لشکر روانہ کرے گا۔“

سفیانی کا نام:

سفیانی کے نام کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں چنانچہ مولانا سید محمد بدر عالم مہاجر مدنیؒ نے ترجمان السنۃ میں امام قرطبیؒ کی تذکرہ کے حوالے سے سفیانی کا نام عروہ ذکر کیا ہے جبکہ شیخ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن ص ۱۹۱ پر سفیانی کا نام عبداللہ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کتاب مذکور کے ص ۱۸۹ پر سفیانی کا پورا نام عبداللہ بن یزید ذکر کیا ہے۔

امام قرطبیؒ نے اپنی کتاب تذکرہ کے ص ۶۹۴ پر ابو الحسین احمد بن جعفر بن مناوی کی روایت سے سفیانی کا نام عقبہ بن ہند نقل کیا ہے۔

سفیانی کی حکومت اور مدت حکومت:

مولانا سید بدر عالم فرماتے ہیں کہ سفیانی کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا (ترجمان السنۃ ج ۴ ص ۳۷۲) اور اس کی مدت حکومت کے بارے میں ایک

روایت یہ ہے کہ سفیانی ساڑھے تین سال حکومت کرے گا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی مدت حکومت ۱۹ ماہ یا ۱۷ ماہ ہوگی۔ (کتاب القن: ص ۱۸۸)

سفیانی کی بیعت کرنے والے اہل شام ہوں گے (یاد رہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل خروج سفیانی ہوگا، اس سفیانی کے خروج سے پہلے ایک اور شخص خروج کرے گا اور اتفاق سے اس کا نام بھی سفیانی ہی ہوگا چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ سفیانی نام کے تیس افراد ہوں گے جن میں سب سے آخری امام مہدیؑ کے ظہور سے قبل خروج کرے گا یہاں اس آخری سفیانی سے پہلے والا سفیانی مراد ہے۔) سفیانی ان کو لے کر اہل مشرق سے قتال کرے گا اور ان کو فلسطین سے دھکیلتا ہوا مرج صفر، جو کہ دمشق کے جنوب میں واقع ہے، تک جا پہنچے گا، وہاں پہنچ کر دوبارہ جنگ ہوگی جس میں اہل مشرق شکست کھا کر پسا ہوتے ہوئے مرج الثیمہ (ثیمۃ العقاب) تک جا پہنچیں گے، وہاں مجتمع ہو کر پھر سفیانی سے لڑیں گے اور حسب سابق شکست کھا کر حمص کے قریب ”حص“ نامی جگہ پہنچیں گے، وہاں پھر جنگ ہوگی اور اہل مشرق قریسیا آ پہنچیں گے، اس کے بعد وہ بغداد کے قریب ”عاقرقوفا“ نامی بستی پہنچ کر آخری فیصلہ کن معرکہ پاپا کریں گے لیکن وہ اس میں بھی شکست کھا جائیں گے اور سفیانی ان لوگوں کے اموال کو جمع کر کے مال غنیمت بنا لے گا۔ اس کے بعد سفیانی کے حلق میں ایک پھوڑا نکلے گا اور وہ صبح کے وقت کوفہ میں داخل ہو کر شام کو اپنے لشکروں سمیت واپس روانہ ہو جائے گا اور شام کے قریب پہنچ کر راستے میں ہی اس کی وفات ہو جائے گی۔ ادھر جب اہل شام کو سفیانی کی موت کی خبر معلوم ہوگی تو وہ بغاوت کر دیں گے اور بنو کلب کے ایک شخص عبداللہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس کی دونوں آنکھیں اندر کودھنسی ہوں گی اور انتہائی بد شکل ہوگا جبکہ اہل مشرق سفیانی کی موت کی خبر سن کر کہیں گے کہ اب اہل شام کی حکومت ختم ہوگئی اور وہ نئے امیر کی اطاعت سے انکار کر کے باغی ہو جائیں گے، عبداللہ بن یزید (سفیانی) کو معلوم ہوگا تو وہ اپنے سارے لشکروں کو لے کر ان پر چڑھ دوڑے گا اور ان سے خوب قتال کرے گا حتیٰ کہ اہل مشرق شکست کھا کر کوفہ میں داخل

ہو جائیں گے اور سفیانی ان میں سے لڑنے والوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قید کریگا اور کوفہ کو برباد کر دے گا۔ اس کے بعد جاز کی طرف ایک لشکر روانہ کرے گا۔“

(کتاب الفتن: ص ۲۰۲، ۲۰۱)

فتنہ سفیانی کی سختی:

سفیانی کا فتنہ اس قدر سخت ہوگا کہ ایک حدیث میں ہے:

”حضور ﷺ نے فرمایا ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص اسلام

میں ایسا سوراخ کھول دے گا کہ پھر اس کو بند نہیں کیا جاسکے گا۔“

نیز حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا

”دین کا یہ امر ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا یہاں تک کہ سب سے پہلے

اس کا مثلہ بنو امیہ کا ایک شخص کرے گا۔“ (کتاب الفتن: ص ۱۸۹)

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ:

”بنو ہاشم میں سے ایک شخص حکمران بن جائے گا اور وہ بنو امیہ کو قتل

کرے گا چنانچہ بنو امیہ میں سے صرف چند افراد ہی قتل ہونے سے

بچیں گے، پھر بنو امیہ کا ایک شخص ”سفیانی“ نکلے گا اور وہ بنو ہاشم

کے دو آدمیوں کو اس ایک آدمی کے بدلے قتل کرے گا جس کو بنو

ہاشم نے قتل کیا ہوگا (ایک آدمی کے بدلے میں دو کو قتل کرے گا۔)

یہاں تک کہ صرف عورتیں بچیں گی۔ اس کے بعد امام مہدی کا ظہور

ہو جائے گا۔“ (کتاب البرہان: ج ۲ ص ۶۲۳)

نیز ایک روایت میں ہے کہ:

”سفیانی اس حال میں خروج کرے گا کہ اس کے پاس بانس کی

تین لکڑیاں ہوں گی، وہ جس کو بھی ان لکڑیوں سے مارے گا وہ مر

جائے گا۔“ (کتاب البرہان: ج ۲ ص ۶۵۴)

خروج سفیانی کی کیفیت:

ایک روایت میں خروج سفیانی کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے:

”سفیانی کو خواب دکھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ کر خروج کرو، وہ اس ارادے کے ساتھ اٹھے گا لیکن اپنی موافقت میں کسی کو نہ پائے گا، دوبارہ اسی طرح اس کو خواب آئے گا، پھر تیسری مرتبہ اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ کر خروج کرو اور دیکھو کہ تمہارے گھر کے دروازے پر کون ہے؟ چنانچہ وہ اٹھ کر دیکھے گا تو اس مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پر سات یا نو افراد کو پائے گا جن کے پاس جھنڈے ہوں گے اور وہ اس سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں (اس لیے تم ہمیں اپنا ہی سمجھو اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں) چنانچہ وہ ان کے ساتھ خروج کرے گا اور وادی یابس کی بستیوں میں سے کچھ لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے۔ ان کی سرکوبی اور ان سے جنگ کرنے کے لیے دمشق کا گورنر روانہ ہوگا لیکن جوں ہی اس کی نظر سفیانی کے جھنڈے پر پڑے گی وہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوگا، ان دنوں دمشق کا گورنر بنو عباس کی طرف سے مقرر ہوگا۔“ (کتاب البرہان: ج ۲ ص ۶۵۵)

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ:

”سفیانی بدترین بادشاہ ہوگا کہ علماء اور فضلاء کو قتل کرے گا اور ان کو فنا کے گھاٹ اتار دے گا، نیز وہ ان سے اپنی مدد کا مطالبہ کرے گا اور انکار کرنے پر ان کو قتل کر دے گا۔“

یہ چند روایات بطور نمونہ کے پیش کی گئی ہیں جن میں سفیانی کے حالات کا بقدر

ضرورت تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کا نام، حلیہ، کردار اور خروج کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس سلسلے میں امام قرطبیؒ نے اپنی کتاب تذکرہ میں سفیانی کے متعلق یہ روایت بھی ذکر کی ہے۔

”سفیانی کی مکمل تفصیلات ابو الحسین احمد بن جعفر بن منادی نے اپنی کتاب ”الملاحم“ میں بیان کی ہیں اور کہا ہے کہ سفیانی کا نام عقبہ بن ہند ہوگا اور یہ اہل دمشق کے درمیان کھڑا ہو کر کہے گا کہ میں تم ہی میں کا ایک فرد ہوں، میرے دادا معاویہ بن ابی سفیانؓ اس سے پہلے تمہارے ولی امر رہ چکے ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا اور تم نے ان کی خوب اطاعت کی۔ پھر ابو الحسین نے ایک طویل کلام ذکر کیا یہاں تک کہ ایک جڑھی کی طرف سفیانی کے بھیجے ہوئے خط کا تذکرہ کیا جو سر زمین شام میں رہتا ہوگا، اسی طرح برقی کے خط کا جو کہ برقہ کی سرحد کے ساتھ مغرب میں رہتا ہوگا، ابو الحسین نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پھر جڑھی آ کر سفیانی سے بیعت کرے گا اور اس جڑھی کا نام عقیل بن عقال ہوگا، اس کے بعد برقی شخص آئے گا جس کا نام ہمام بن الورد ہوگا (روایت میں اس کے بیعت کرنے کا تذکرہ نہیں ہے)۔ پھر ابو الحسین نے سفیانی کے ملک مصر جانے اور وہاں کے بادشاہ سے جنگ کرنے کا تذکرہ کیا کہ وہ فرما کے پل پر یا اس سے کچھ پیچھے سات دن تک برابر ان لوگوں کو تہہ تیغ کرے گا حتیٰ کہ اہل مصر کے ستر ہزار افراد قتل ہو جائیں گے۔ پھر اہل مصر تھک ہار کر اس سے صلح کر لیں گے اور اس کی بیعت میں داخل ہو جائیں گے اور سفیانی شام واپس آ جائے گا۔“ (تذکرہ للقرطبی، ص ۶۹۴)

روایات کے اس تناظر میں اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل اسلام اور مسلمان سخت تکالیف میں مبتلا ہوں گے، ان پر ظلم و ستم

کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور ان کو جائے پناہ کا ملنا مشکل ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف رہی ہے کیونکہ اس نے اپنے اوپر مومنین کی مدد کرنا لازم کر رکھا ہے۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے:

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ۴۷)

تشبیہ: یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ لزوم کی دو قسمیں ہیں:

(۱) لزوم استحقاقی (۲) لزوم تفصیلی

لزوم استحقاقی:

ایک چیز کسی پر اس طرح لازم ہو کہ وہ غیر کا حق ہو۔

لزوم تفصیلی:

ایک چیز کسی پر اس طرح لازم ہو کہ وہ غیر کا حق نہ ہو بلکہ اس نے مہربانی کر کے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کیا ہے وہ لزوم تفصیلی کے طور پر ہے نہ کہ لزوم استحقاقی کے طور پر۔

الغرض! سفیانی کے خروج کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہے گی، اس کی تفصیلات بھی قرطبی کی مذکورہ روایت ہی میں موجود ہیں اور وہ یہ کہ:

”ابوالحسین نے سفیانی کے واقعہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بہت

سے عجائبات کا تذکرہ کیا ہے نیز اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے

لشکر کو زمین اس طرح نکل لے گی کہ ان کے سر تو زمین سے باہر

ہوں گے اور گردن تک کا سارا جسم زمین میں دھنس جائے گا اور ان

کا تمام مال و دولت، خزانہ اور قیدی سب اپنی حالت پر ہوں گے،

یہ خبر گورنر مکہ کو پہنچے گی جس کا نام محمد بن علی ہوگا اور وہ السبط الاکبر

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ہوگا، جب وہ مکہ

سے کوچ کا ارادہ کر کے روانہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے زمین کی دوریوں کو ہٹا کر گویا زمین کو لپیٹ دیں گے اور وہ اسی دن اس بیابان میں جا پہنچے گا جہاں سفیانی کا لشکر مذکورہ بدترین صورت حال سے دوچار ہوگا چنانچہ محمد بن علی اور اس کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کریں گے اور تسبیح و تحمید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تمام عافیت و نعمت کا سوال کریں گے۔“ (تذکرہ ص ۶۹۵)

سفیانی کا جھنڈا:

اخیر زمانے میں اختلافات کی کثرت ہوگی، قیامت قریب آچکی ہوگی اور سفیانی کا خروج ہو چکا ہوگا جس کی علامت یہ ہوگی کہ بقول محمد بن حنفیہ اختلافات کے وقت شام میں تین جھنڈے بلند کیے جائیں گے، ایک جھنڈا ایقاع نامی شخص کا ہوگا، دوسرا جھنڈا اصہب نامی شخص کا ہوگا اور تیسرا جھنڈا سفیانی کا ہوگا۔ (کتاب الفتن ص ۱۹۶)

اور ایک روایت میں ہے کہ ان تینوں میں سے سفیانی غالب آجائے گا چنانچہ مروی ہے کہ:

”جب لوگوں میں اختلافات بڑھ جائیں گے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد مصر میں ایقاع نامی ایک شخص ظاہر ہوگا، وہ لوگوں کو قتل کرتے ہوئے ”ارم“ تک جا پہنچے گا پھر اس پر ایک بد شکل شخص حملہ کر دے گا چنانچہ ان دونوں کے درمیان سخت جنگ ہوگی اسی اثناء میں ملعون سفیانی کا ظہور ہو جائے گا اور وہ ان دونوں پر غالب آجائے گا۔“

(بحوالہ مذکورہ)

اور ایک روایت میں ہے کہ:

”سفیانی مصر جا کر چار ماہ قیام کرے گا اور مصر میں قتل و غارتگری

کا بازار گرم کر دے گا اور لوگوں کو قیدی بنا لے گا۔“ (بحوالہ مذکورہ)

﴿خروج سفیانی کا اجمالی نقشہ﴾

علامہ ابن حجر ہیتمی مکی نے اپنی کتاب ”القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر“

میں خروج سفیانی کی تفصیلات کا ایک نہایت اچھا اور جامع خلاصہ تحریر فرمایا ہے، یہاں اس کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔

”امام مہدیؑ کے ظہور سے پہلے ۳۶۰ سواروں کے ساتھ سفیانی کا خروج ہوگا، اس کے بعد اس کے انھیال بنو کلب کے تیس ہزار افراد اس کے قبیح ہو جائیں گے اور وہ عراق پر حملہ کے لیے اپنے لشکر کو روانہ کر دے گا جو مقام زوراء (ایک مشرقی شہر) میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دے گا پھر اس کے لشکری کوفہ پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں گے (ادھر تو یہ ہو رہا ہوگا اور ادھر) مشرق کی طرف سے ایک جھنڈا ظاہر ہوگا جس کی قیادت بنو تمیم کے شعیب بن صالح نامی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ قیدی کوفیوں کو آزاد کرانے گا اور سفیانی کے لشکریوں سے جنگ کرے گا، سفیانی اپنا دوسرا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بھیجے گا۔ وہاں بھی اس کے لشکری تین دن تک لوٹ مار کرتے رہیں گے پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور جب بیداء نامی جگہ پر پہنچیں گے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوگا اور وہ اپنا پاؤں ان پر ماریں گے جس کی وجہ سے پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور صرف دو آدمی بچیں گے۔

وہ دونوں سفیانی کو آ کر اس ہولناک واقعے کی خبر دیں

گے لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، پھر وہ بادشاہ روم کے پاس پیغام بھیجے گا کہ میرے پاس ان دونوں سواروں کو بھیج دو جو قسطنطنیہ

بھاگ گئے ہیں، وہ ان کو واپس بھیج دے گا تو وہ جرم فراری کی سزا میں دمشق کے دروازے پر ان کی گردنیں مار دے گا اور جامع مسجد دمشق کے محراب میں اپنی ران پر ایک عورت کو بٹھائے گا اور جو اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا، اس کو بھی قتل کر دے گا۔

اس وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم سے ظالموں، منافقوں اور ان کے ہمنواؤں کو دور کر کے تم پر امت محمدیہ کے ایک بہترین فرد کو امیر بنایا ہے چنانچہ تم اس سے مکہ میں جا کر ملو، وہ مہدی ہیں اور ان کا نام احمد بن عبد اللہ ہے.....“ الخ (القول الختصر فی علامات المہدی المظفر: ص ۴۰)

فائدہ:

اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اگرچہ محدثانہ انداز سے روایات ظہور مہدیؑ و خروج سفیانی پر بحث کرنا اس وقت موضوع سخن نہیں لیکن یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ امام مہدیؑ کا ظہور اور خروج سفیانی وغیرہ صرف صحیح روایات سے ثابت نہیں بلکہ ان میں صحیح، حسن اور ضعیف وغیرہ تمام روایات شامل ہیں حتیٰ کہ اس میں موضوع روایات بھی موجود ہیں۔ البتہ ان روایات کا مضمون اور ظہور مہدیؑ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ آپ ”ظہور مہدیؑ کے متعلق عقیدے کی بحث“ میں تفصیل کے ساتھ پڑھ آئے ہیں۔

نیز امام مہدیؑ رضوان اللہ علیہ کے متعلق مندرجہ ذیل نکات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہیں:

- (۱) امام مہدیؑ کے ظاہر ہونے پر ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نیز ظہور مہدیؑ اور خود امام مہدیؑ ہمارے عقائد میں سے کسی عقیدے میں تبدیلی کا تقاضا نہیں کریں گے۔ البتہ وہ احیاء سنت اور امانت بدعت کی طرف خوب متوجہ ہوں گے۔
- (۲) امام مہدیؑ نبی نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ معصوم ہوں گے، نیز وہ خود بھی اپنی

نبوت کے مدعی نہیں ہوں گے۔

(۳) ظہور مہدیؑ کے وقت امام مہدیؑ کو ماننا، ان کی بیعت و معاونت کرنا قرآن و سنت کی پیروی کے مخالف نہیں ہوگا بلکہ اس کے مطابق ہوگا۔

(۴) امام مہدیؑ اپنے وقت موعود پر پیدا ہوں گے اور عام معمول کے مطابق ان کی نشوونما اور دینی ماحول کی تربیت ہوگی اور جس وقت اللہ کو منظور ہوگا اس وقت ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی وہی صلاحیتیں ان میں ودیعت فرمادیں گے کہ وہ لوگوں کی قیادت کر سکیں اور پھر ان کا ”امام مہدیؑ“ کے عنوان سے ظہور ہوگا۔

باب پنجم

ظہور مہدیؑ کا ترتیب زمانی کے
ساتھ واقعات کے تناظر میں

جنگیں، امام مہدیؑ کی تلاش، بیعت و خطبہ اولیٰ،
استحکام اسلام، پوری دنیا کی حکمرانی، خروج دجال، نزول عیسیٰؑ
وفات مہدیؑ اور ان کی مدت حکومت وغیرہ

ظہور مہدیؑ ترتیبِ زمانی کے ساتھ

واقعات کے تناظر میں

گذشتہ صفحات میں بیان شدہ تفصیلات کا خلاصہ یہ نکلا کہ آخر زمانے میں امام مہدی رضوان اللہ علیہ کا ظہور برحق ہے، ان کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوگا، ان کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہو کر حضور ﷺ سے جا ملے گا، ان کی ولادت باسعادت مدینہ طیبہ میں ہوگی، ان کی سیرت و اخلاق کریمانہ، حلیہ مبارک، بوقت ظہور علامات اور قبل از ظہور واقعات آپ بالتفصیل پڑھ چکے، اب آپ اس کو واقعات کے تسلسل کے ساتھ پڑھیں تو اس سے انشاء اللہ ایک نیا لطف حاصل ہوگا۔

لیکن یہ بات ضرور ذہن نشین رہے کہ واقعات کی اس ترتیب سے ظہور مہدیؑ کے لیے ماہ و سن کی تعیین قطعاً ناروا اور غلط ہے اور اس مضمون کے مقصد کے خلاف ہے۔

دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا:

حضرت امام مہدیؑ کے ظہور سے قبل دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، لوگوں کو جب اس کی خبر ہوگی تو وہ اس کے حصول کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ ہوں گے، وہاں تین آدمی قائدانہ حیثیت سے اکٹھے ہوں گے اور دریائے فرات پر سونے کے اس پہاڑ کے حصول کے لیے یہ تینوں باہم اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کریں گے، ان تینوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خلیفہ یا بادشاہ کا بیٹا ہوگا، ان تینوں کے لشکروں کے درمیان اس قدر شدید قتال ہوگا کہ ہر سو میں سے ننانوے افراد قتل ہو جائیں گے۔

اور صحیحین کی روایت میں اس موقع پر امت محمدیہ کے لیے بارگاہ نبوت سے یہ ہدایت نامہ موجود ہے کہ جو شخص اس موقع پر حاضر ہو، وہ اس سونے میں سے کچھ نہ لے۔

(بخاری ۷۱۱۹، مسلم ۷۲۷، ابوداؤد ۴۳۱۳، ابن ماجہ ۴۳۶)

اس قسم کی مزید روایات شیخ علی متقی ہندیؒ کی کتاب البرہان ج ۲ ص ۶۳۳ تا ص ۶۳۴ ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہیں جن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدیؑ کے ظہور سے قبل دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا چنانچہ اس کے لیے حدیث میں ”یَحْسِرُ“ کا لفظ ہے جس کی شرح میں امام نوویؒ تحریر فرماتے ہیں:

﴿يُوشِكُ الْفِرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ أَي يَنْكَشِفُ لَذَهَابِ مَائِهِ﴾

(شرح مسلم: ۱۸-۱۹)

”اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دریائے فرات پانی خشک ہونے کی وجہ سے ظاہر ہو جائے گا۔“

امام مہدیؑ کے ظہور کی انتہائی قریبی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی کا خروج ہو جائے گا جس کے بارے میں اس سے قبل تفصیلات بیان ہو چکیں تاہم واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے علامہ سید برزنجیؒ کا بیان پڑھ لیجیے جو انہوں نے اپنی کتاب الاشاعہ کے ص ۲۰۲ پر تحریر فرمایا ہے۔

سفیانی کی ابقع اور اصہب وغیرہ سے جنگ:

سفیانی کا خروج دمشق کی ایک وادی سے ہوگا جس کا نام وادی یابس ہوگا..... پھر ”علامہ خروج“ کے تحت فرماتے ہیں کہ سفیانی کے خروج کی علامت یہ ہوگی کہ دمشق کی ایک بستی، جس کا نام شاید ”حرستا“ ہوگا، کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور دمشق کی جامع مسجد کی مغربی جانب گر جائے گی۔

اور مصر سے ابقع کا، جزیرہ عرب سے اصہب کا اور شام سے سفیانی کا خروج ہو گا۔ نیز مغرب کی طرف سے اعرج کنڈی کا خروج ہوگا، ان سب کے درمیان پورے ایک سال تک جنگ ہوتی رہے گی اور بالآخر سفیانی، ابقع اور اصہب پر غالب آجائے گا اور اعرج کنڈی واپس بھاگ جائے گا اور راستے میں مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو قیدی بنا

لے گا پھر وہ جزیرۃ العرب میں پہنچے گا تو وہاں سفیانی قیس نامی شخص سے نبرد آزما ہوگا اور آخر الامر وہی غالب آئے گا اور ان کے جمع کردہ اموال پر قابض ہو جائے گا، یوں وہ تینوں لشکروں پر غالب آ جائے گا۔

سفیانی کی ترک اور روم سے جنگ:

پھر سفیانی ترکی اور روم والوں سے قرقیسیا کے مقام پر جنگ کرے گا اور حسب سابق ان پر بھی غالب آ جائے گا اور زمین میں فساد برپا کر دے گا، عورتوں کے پیٹ چاک کر کے اس میں سے بچوں کو نکال کر قتل کر دے گا۔

اس دوران کچھ قریشی افراد بھاگ کر قسطنطنیہ چلے جائیں گے، جب سفیانی کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ روم کے فرمانروا کے پاس یہ پیغام بھیجے گا کہ ان کو میرے پاس واپس بھیج دو، وہ اس کے حکم کی تعمیل میں ان لوگوں کو واپس بھیج دے گا اور سفیانی دمشق کے کسی شہر کے دروازے پر ان کی گردنیں اڑا دے گا۔

سفیانی کا فساد برپا کرنا:

کچھ عرصے کے بعد اس کے پیچھے ایک جماعت شورش برپا کر دے گی۔ سفیانی ان کی طرف پلٹے گا اور ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر دے گا، بقیہ ماندہ لوگ شکست کھا کر خراسان میں پناہ گزین ہو جائیں گے، سفیانی اپنے گھوڑے کو ان کی تلاش میں رات کی سیاہی اور سیلاب کے بہاؤ کی طرح دوڑائے گا اور اس دوران جہاں سے بھی گزرے گا وہاں تباہی پھیلا دے گا، قلعوں کو منہدم کر دے گا اور بغداد پہنچ کر ایک لاکھ آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوگا اور وہاں ساٹھ ہزار افراد کو تہ تیغ کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور تمام شہروں میں اپنے فوجی پھیلا دے گا اور اہل خراسان کو بہر صورت تلاش کرنے پر مصہر ہوگا۔ اور اسی دوران ایک لشکر مدینہ منورہ کی طرف بھی بھیجے گا جو اہل بیت نبوی میں سے ہر اس شخص کو پکڑے گا جس پر وہ قادر ہوگا اور بنو ہاشم کے مردوں اور عورتوں کو قتل کر دگا۔ اس کے بعد سفیانی اس لشکر کے ایک حصے کو کوفہ

واپس بلا لے گا اور باقی لوگ خشکی میں منتشر ہو جائیں گے۔ (اس سے ملتے جلتے الفاظ مستدرک حاکم: ۴/۵۶۵ پر بھی موجود ہیں)

امام مہدیؑ کا مکہ میں روپوش ہونا:

اس وقت مہدیؑ اور مہیض (اور ایک روایت کے مطابق مہدیؑ اور منصور) سات افراد کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا کر روپوش ہو جائیں گے، ادھر جب گورنر مدینہ کو ان کے فرار ہونے کی اطلاع ملے گی تو وہ مکہ مکرمہ کے گورنر کو یہ خط لکھے گا کہ جب تمہارے پاس فلاں فلاں نام کے آدمی پہنچیں تو انہیں قتل کر دینا، گورنر مکہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی اور وہ اس سلسلے میں اپنے مشیروں سے مشورہ کر رہی رہا ہوگا کہ رات کے وقت وہ لوگ اس کے پاس پناہ حاصل کرنے کے لیے آ پہنچیں گے، گورنر مکہ ان سے کہے گا کہ تم یہاں بے خوف و خطر ہو کر اطمینان سے رہو۔

گورنر مکہ کا دھوکہ دینا:

اس کے بعد وہ نجانے کیا سوچ کر ان میں سے دو آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے بندے بھیج دے گا چنانچہ ان میں سے ایک تو قتل ہو جائے گا اور دوسرا بچ جائے گا اور وہ اس طرح کہ وہ لوگ نفس زکیہ کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کر دیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کو اور تمام آسمان دالوں کو اس دھوکہ دہی پر غصہ آ جائے گا۔

ادھر وہ دوسرا شخص جو قتل ہونے سے بچ گیا ہوگا اپنے ساتھیوں کو آ کر خبر دے گا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے چنانچہ وہ لوگ وہاں سے نکل کر طائف کے ایک پہاڑ پر پڑاؤ ڈالیں گے اور وہاں رہ کر لوگوں کو پیغامات کے ذریعے جہاد کی ترغیب دیں گے، لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، جب اہل مکہ کو اس کی خبر ہوگی تو وہ ان سے جنگ کریں گے اور یہ لوگ اہل مکہ کو شکست دے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے۔

حج کی ادائیگی کا امیر کے بغیر ہونا:

اس دوران چونکہ گورنر مکہ قتل ہو چکا ہوگا اور حج کا موسم بھی قریب ہوگا اس لیے اس سال لوگ بغیر امیر کے حج کریں گے، اور جب منیٰ میں پہنچیں گے تو کسی بات پر لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے کتوں کی طرح ایک دوسرے پر آ پڑیں گے، خوب قتل و قتال ہوگا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور حجرہ عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہوگی۔

اسی دوران پوری دنیا میں سے سات بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر تین سو دس کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی، یہ علماء مکہ مکرمہ میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ تم کیوں آئے ہو؟ ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ ہم تو اس آدمی کی تلاش میں آئے ہیں جس کے ہاتھ پر یہ فتنے ختم ہوں گے اور قسطنطنیہ فتح ہوگا، نیز ہم اس شخص کو اس کے اور اس کے والدین کے نام سے پہچان لیں گے۔

سات بڑے بڑے علماء کا امام مہدیؑ کو تلاش کرنا:

چنانچہ وہ ساتوں علماء اس پر متفق ہو کر امام مہدیؑ کو تلاش کریں گے اور جب ایک شخص میں مہدیؑ موعود کی تمام علامتیں پائیں گے تو اسے کہیں گے کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ وہ شخص جواب میں کہے گا کہ میں تو ایک انصاری آدمی ہوں اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جائے گا۔ وہ علماء دوسرے جاننے والوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہی تو تمہارا گورنر مطلوب ہے، لیکن اس دوران امام مہدیؑ مدینہ منورہ جا چکے ہوں گے، وہ لوگ ان کی تلاش میں مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں گے، امام مہدیؑ کو جب اس کی اطلاع ملے گی تو وہ مکہ مکرمہ آ جائیں گے، غرض اس طرح مکہ سے مدینہ کی طرف ان کے تین چکر لگیں گے۔

فائدہ:

اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعات کی اس تفصیل سے یہ بات

معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی رضوان اللہ علیہ کی بیعت جس سال ہوگی، اسی سال منیٰ میں خون ریزی ہوگی اور اسی سال چند ایام کے بعد ماہ محرم الحرام میں عاشوراء کی رات کو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور اس دوران وہ ساتوں علماء مدینہ کے تین چکر بھی لگائیں گے حالانکہ مدینہ اور مکہ کے درمیان کافی طویل فاصلہ ہے تو اس مختصر سی مدت میں یہ کیسے ممکن ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل اس قدر تیز رفتار سوار یوں کی موجودگی میں یہ اعتراض کچھ حقیقت نہیں رکھتا جبکہ پوری دنیا سمٹ کر ایک محلہ بن چکی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ یہ تمام حضرات اولیاء اللہ میں سے ہوں گے، اگر کرامۃ ان کے لیے زمین کی دوری کو لپیٹ کر طویل فاصلے مختصر کر دیئے جائیں تو یہ بھی کوئی بعید نہیں۔

امام مہدیؑ کا حجر اسود کے پاس ملنا:

اوسر جب مدینہ منورہ کے گورنر کو پتہ چلے گا کہ لوگ امام مہدیؑ کی تلاش میں ہیں تو وہ مکہ مکرمہ میں موجود بنو ہاشم کو تلاش کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کرے گا، اسی اثناء میں وہ ساتوں علماء تیسری مرتبہ امام مہدیؑ کو مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے پاس جا لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھایا تو پھر ہمارا گناہ بھی آپ پر ہوگا اور ہمارا خون بھی، یعنی آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں ہے جس کا سردار قبیلہ حزم کا ایک آدمی ہے، اور وہ علماء امام مہدیؑ کو بیعت نہ کرنے پر قتل تک کی دھمکی دیدیں گے۔

کتاب الفتن کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ لوگ کسی بہترین قائد کی تلاش میں ہوں گے اور تلاش کرتے کرتے امام مہدیؑ تک جا پہنچیں گے جو کعبہ کے ساتھ اپنے چہرے کو چپکا کر رو رہے ہوں گے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ گویا اس وقت میں ان کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ لوگ ان سے بیعت کی

درخواست کریں گے تو وہ فرمائیں گے کہ تم پر افسوس ہے کہ اس قدر وعدہ خلافی اور خون ریزی کے بعد میرے پاس آئے ہو؟

فائدہ:

اس روایت میں تو سات علماء کا ذکر نہیں لیکن دوسرے مقام پر ص ۲۳۱-۲۳۲ پر ان کا ذکر ہے نیز سید برزنجی نے بھی ان علماء کا ذکر کیا ہے اس لیے اس روایت کو بھی انہی سات علماء پر محمول کیا جائے گا۔

امام مہدیؑ کا بیعت لینا:

مجبور ہو کر امام مہدی رضوان اللہ علیہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور ان سے بیعت لیں گے گویا یہ خصوصی بیعت ہوگی، پھر وہ اسی دن جبکہ عاشوراء کی رات ہوگی، عشاء کی نماز کے وقت حضور ﷺ کے جھنڈے، قیص اور تلوار کے ساتھ ظہور فرمائیں گے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر دو رکعت نماز ادا فرمائیں گے اور پھر منبر پر چڑھ کر با آواز بلند یوں خطاب فرمائیں گے ”اے لوگو! میں تمہیں تمہارے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈراتا ہوں اور اس بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں“ اس کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمائیں گے جس میں لوگوں کو سنتوں کو زندہ کرنے اور بدعتوں کو ختم کرنے کی ترغیب دیں گے۔

امام مہدیؑ کا پہلا خطبہ:

امام مہدیؑ کے اس پہلے خطبے کے کچھ الفاظ کتاب الفتن ص ۲۳۱ پر اس طرح

مذکور ہیں۔

”اے لوگو! میں تمہیں اللہ (جس کو ہم بھلا چکے ہیں) یاد کروانا چاہتا ہوں اور یہ کہ تم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ

اتمام حجت کر چکا، اس نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر محافظت کرو۔ جن چیزوں کو قرآن کریم نے زندہ کرنے کا حکم دیا ہے تم انہیں زندہ کرو، جن چیزوں کو چھوڑنے اور ختم کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کر دو اور ہدایت کے کاموں پر ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، اور تقویٰ پر ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ اس لیے کہ دنیا کے فنا و زوال کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ رخصت ہونے کے قریب ہے اس لیے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے، باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔“

اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ:

”اے لوگو! امت محمدیہ کو مصائب نے آگھیرا، خاص طور پر حضور ﷺ کے خاندان والوں کو اور ہم مغلوب ہو گئے اور ہمارے خلاف کفار نے بغاوت کر کے ہم پر چڑھائی کر دی۔“

پھر اہل بدر کی تعداد کے برابر ۳۱۳ افراد کے ساتھ ظہور کریں گے اور ۳۱۳ افراد بنی طالوت کے ساتھ بھی نکلے تھے، جب انہوں نے جالوت کے مقابلے کا ارادہ کیا تھا اور نہر عبور کی تھی۔

امام مہدیؑ کے اعوان و انصار:

حضرت امام مہدیؑ کے ساتھ یہ ۳۱۳ افراد شام کے ابدال، عراق کے عصاب اور مصر کے نجائب پر مشتمل ہوں گے جو رات کے وقت شب زندہ دار اور دن کے وقت شہسوار ہوں گے، جب ان کے پاس گورنر مدینہ کا بھیجا ہوا لشکر پہنچے گا تو یہ اس سے قتال کر

کے اسے شکست سے دوچار کر دیں گے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے اور مدینہ منورہ کو ان کے پنجے سے آزاد کرالیں گے۔

ابدال، عصائب اور نجباء سے کن لوگ مراد ہیں؟

ابدال اور عصائب وغیرہ الفاظ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں بھی آئے ہیں، ان کی تشریح ملا علی قاریؒ کی زبانی ملاحظہ ہو:

”ابدال، بدل کی جمع ہے، ان کو ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل کر مقرر فرمادیتے ہیں۔ جوہری کہتے ہیں کہ ابدال، صلحاء کی وہ جماعت ہے جن سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی جوں ہی ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے، دوسرا اس کی جگہ تعینات کر دیا جاتا ہے، ابن درید نے کہا ہے کہ ابدال، بدل کی جمع نہیں بلکہ بدیل کی جمع ہے جیسے شریف کی جمع اشراف، اور ان کو ابدال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتے رہتے ہیں اور پہلی جگہ ان کی شبیہ قائم کر دی جاتی ہے۔ قاموس میں ہے کہ ابدال وہ قوم ہے جن سے اللہ عزوجل زمین کو قائم رکھتے ہیں، ایسے افراد کل ستر ہوتے ہیں جن میں سے چالیس صرف شام میں رہتے ہیں اور تیس شام کے علاوہ دیگر مقامات پر رہتے ہیں۔“

یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ شام سے صرف دمشق مراد نہیں بلکہ شام اور اس کے اردگرد کا پورا علاقہ مراد ہے۔

اسی طرح ان حضرات کو ابدال کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اخلاقی رذیلہ کو بدل کر اخلاقی حسنہ اختیار کر لیے یا یہ کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ قطب حقانی شیخ

عبدالقادر جیلانی ”ان کو ابدال کہنے کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا تو اس کا بدلہ ان کو یہ عطاء ہوا کہ ان کی مرضی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگئی، اب ان لوگوں کے حق میں یہ چیز بھی گناہ کے زمرے میں آتی ہے کہ وہ ارادہ خداوندی کے ساتھ کسی کو بھول کر یا غلبہٴ حال میں آ کر شریک بناویں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی دیکھیری فرماتے ہیں تو وہ اس سے باز آ کر رب ذوالجلال سے استغفار کرتے ہیں اور شاید عارف باللہ ابن فارض نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے:

ولو خطرت لی فی سواک ارادة

علی خاطر لی سہوا حکمت ہر دتی

اگر میرے دل میں بھولے سے بھی تیرے علاوہ کسی اور کے بارے میں کوئی ارادہ کھٹکے تو میں اپنے مرتد ہونے کا فیصلہ کروں گا۔

اور اہل عرب کا یہ مقولہ ہے ”حسنات الابرار سیئات المقربین۔“

مصائب:

”نہا یہ میں لکھا ہے کہ عصائب، عصابیہ کی جمع ہے اس کا اطلاق دس سے لے کر چالیس تک کی جماعت پر ہوتا ہے، اسی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ”ابدال شام میں ہوتے ہیں۔ نجباء مصر میں اور عصائب عراق میں۔“

”عصائب عراق میں“ اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ عراق جنگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد زاہدوں کی ایک جماعت ہے جن کا نام ہی عصائب ہے اس لیے کہ حضرت علیؑ نے اس کو ابدال اور نجباء کے

ساتھ ذکر کیا ہے۔

ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں اپنی سند سے حضرت ابن عمرؓ سے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ ہر زمانے میں پانچ سو افراد ہوتے ہیں اور چالیس ابدال ہوتے ہیں، نہ وہ پانچ سو کم ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ چالیس۔ اس لیے کہ جب ان چالیس میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پانچ سو میں سے ایک کو اس کی جگہ مقرر فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیے (کہ وہ کسی قسم کے اعمال کر کے اس رجبہ علیا تک پہنچے) آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، اپنے ساتھ برا کرنے والوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔“

اور ابو نعیم ہی کی سند سے اس سلسلے کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سات بندے ایسے ہیں..... کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندگی اور موت دیتے ہیں، بارش برساتے، پیداوار اگاتے اور مصائب کو روکتے ہیں، حضرت ابن مسعودؓ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے لوگوں کو زندگی اور موت کیسے دیتے ہیں؟ فرمایا اس طرح کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے امت کی کثرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں، ظالموں کے خلاف بددعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں تہس نہس فرما دیتے ہیں، پانی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں، دعا کرتے

ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کی پیداوار اگا دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو اللہ

تعالیٰ مصائب کو دور فرما دیتے ہیں۔“ (مرقاۃ: ج ۱۰ ص ۱۷۶-۱۷۷)

اگر خوف طوالت دامن گیر نہ ہوتا تو ابھی ملا علی قاریؒ کا تبصرہ نقل کرنا باقی رہ گیا ہے اس کو بھی ذکر کرتا لیکن اسی پر اکتفاء کرتے ہوئے آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ چلیں کہ حضرت امام مہدیؑ کے ساتھ شام کے ابدال، عراق کے عصاب بطور اعوان و انصار کے ہوں گے۔

مقام بیداء میں لشکر سفیانی کا دھنسا:

جب سفیانی کو حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کی اطلاع ملے گی تو وہ کوفہ سے ایک لشکر مدینہ کی طرف بھیجے گا جو تین دن تک مدینہ منورہ میں خوب قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھے گا اور امام مہدیؑ کی تلاش میں ہوگا، پھر وہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا اور جب مقام بیداء میں پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ (مسلم شریف حدیث نمبر ۷۲۳۰ تا ۷۲۳۳، ابن ماجہ ۳۰۶۳ تا ۳۰۶۵) صرف دو آدمی بچیں گے جن میں سے ایک تو سفیانی کے پاس یہ بری خبر لے کر پہنچے گا اور دوسرا حضرت امام مہدیؑ کو جا کر یہ خوشخبری سنائے گا، جب امام مہدیؑ اس خبر کو سنیں گے تو فرمائیں گے کہ ہاں! اب خروج کا وقت آیا ہے چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور بنو ہاشم کے جو لوگ قید ہو چکے ہوں گے انہیں آزاد کرائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سرزمین حجاز کو فتح کر ڈالیں گے۔

اہل خراسان پر کیا ہوتی؟

اس سے قبل آپ یہ پڑھ آئے ہیں کہ حضرت امام مہدیؑ کے ظہور سے قبل کچھ لوگ خراسان میں روپوش ہو جائیں گے جن کی تلاش سفیانی برابر جاری رکھے گا لیکن ان پر قابض نہ پاسکے گا کہ اس اثناء میں امام مہدیؑ کا ظہور ہو جائے گا۔

حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کے بعد ان کی مدد اور اہل خراسان کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ ماوراء النہر کے علاقے سے حارث یا حراث نامی شخص کو پیدا فرمائیں گے، وہ

ایک لشکر تیار کرے گا جس کے ہر اول کا افسر منصور نامی شخص ہوگا اور وہ حضور ﷺ کے اہل بیت کو ویسے ہی پناہ دے گا جیسے قریش نے قبول اسلام کے بعد حضور ﷺ کو دی تھی اور چھوٹے حدیث ہر مسلمان پر اس کی مدد کرنا واجب ہوگا۔

وہ اہل خراسان کو لے کر سفیانی کے لشکر پر حملہ کرے گا اور ان کے درمیان کئی جھڑپیں ہوں گی چنانچہ ایک جھڑپ تیونس میں ہوگی، ایک دلاب الری میں اور ایک تخوم زرنج میں۔ (کتاب الفتن ص ۲۱۸ پر مذکورہ جگہوں کے نام اس طرح لکھے ہوئے ہیں قوس، دولات الری اور تخوم زرنج۔ واللہ اعلم بالصواب) لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جھڑپوں اور جنگوں کا یہ سلسلہ طویل ہوتا جا رہا ہے تو وہ بنو ہاشم کے ایک آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے جس کی دائیں ہتھیلی میں تل کا نشان ہوگا اور وہ امام مہدیؑ کا حقیقی یا چچا زاد بھائی ہوگا (اور دوسرا قول ہی راجح ہے) اور اللہ تعالیٰ اس پر یہ معاملہ آسان فرمادیں گے۔

خراسان سے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ روانگی:

امام مہدیؑ کا چچا زاد بھائی اس وقت مشرق کے آخری کونے میں ہوگا اور خراسان و طالقان کے لوگوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ روانہ ہوگا اور اس کے ہر اول کا افسر بنو تمیم کے موالیٰ میں سے متوسط قد و قامت والا، زردی مائل رنگ اور ہلکی ڈاڑھی والا (جو صرف ٹھوڑی پر ہوگی) ایک شخص شعیب بن صالح نامی ہوگا، وہ پانچ ہزار افراد کے ساتھ نکلے گا اور اس قدر راجی دار ہوگا کہ اگر اس کے راستے میں مضبوط پہاڑ بھی حائل ہو جائیں تو وہ ان کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دے گا اور امام مہدیؑ کے لیے آسانی کر دے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿اذا سمعتم برایات سوداء اقبلت من خراسان فاتوها﴾

• ولو حبوا علی الثلج ﴿(ترمذی: ج ۲ ص ۵۶)

”جب تمہیں خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈوں کے آنے کی خبر“

ملے تو تم ان کے پاس چلے جانا اگرچہ برف پر چل کر جانا پڑے۔“

سفیانی کے ساتھ جنگیں:

الغرض! اس کا سفیانی کے لشکر سے آمنا سامنا ہوگا اور ان کے درمیان انتہائی شدید جنگ ہوگی پھر جستان کی طرف سے اس ہاشمی کی امداد کے لیے ایک بڑا لشکر آپہنچے گا جس کا سردار بنو عدی میں سے ہوگا اور یوں اللہ تعالیٰ ”ری“ کی اس جنگ میں اپنے دوستوں کی مدد فرمائے گا۔

”ری“ کی اس جنگ کے بعد ”مائن“ میں جنگ ہوگی پھر ”عاقرقوفا“ میں ایک صلیبی جنگ ہوگی اور سیاہ جھنڈے آ کر ایک پانی والی جگہ (عالمباً دریائے دجلہ) کے قریب پڑاؤ ڈالیں گے، ادھر کوفہ میں جب سفیانی کے لشکریوں کو ان کے آنے کی اطلاع ملے گی تو وہ بھاگ جائیں گے اور مسلمان کوفہ پہنچ کر تمام بنو ہاشم کو آزاد کرالیں گے، اس کے کچھ عرصہ بعد کوفہ کے کسی علاقے سے ایک قوم نکلے گی جس کا نام ”عصب“ ہوگا، ان کے پاس تھوڑا سا اسلحہ ہوگا، ان میں بصرہ کے بھی کچھ لوگ ہوں گے، جو سفیانی کے لشکر کو خیر باد کہہ چکے ہوں گے وہ ان کے ساتھ آلیں گے۔

جب بنو ہاشم کوفہ کے قیدیوں کو آزاد کرالیں گے تو ان میں سے کچھ لوگوں کو سیاہ جھنڈے دے کر (جو کہ بطور علامت کے ہوں گے) امام مہدیؑ کے پاس بیعت کے لیے بھیجیں گے چنانچہ وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوں گے اور سرزمین حجاز میں امام مہدیؑ کو پالیں گے اور ان سے بیعت کر کے ان کو اپنے ساتھ شام لے آئیں گے۔

کلمہ حق کہنے کی سزا:

اس طرف تو یہ ہو رہا ہوگا اور دوسری طرف سفیانی زمین میں فساد برپا کیے ہوئے ہوگا حتیٰ کہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی، اسی طرح ایک عورت سفیانی کی ران پر آ کر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دمشق کی محراب میں بیٹھا ہوگا، اس وقت ایک غیرت مند مسلمان سے مسجد

کی یہ بے حرمتی اور یہ کریہہ منظر دیکھا نہ جائے گا اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ افسوس ہے تم پر، ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو؟ یہ ناجائز ہے۔ ظاہر ہے کہ سفیانی کو حق کی یہ بات کڑوی لگے گی اور وہ اس کو کلمہٴ حق کہنے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دے گا اور صرف اسی کو نہیں بلکہ جس نے بھی اس کی تائید کی ہوگی اس کو بھی قتل کر دے گا۔

اس وقت آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم سے ظالموں، منافقوں اور ان کے ہمنواؤں کو دور کر کے امت محمدیہ کے بہترین فرد کو تم پر امیر مقرر کیا ہے لہذا تم مکہ مکرمہ میں ان سے جا کر مل جاؤ (ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ) کہ ان کا نام احمد بن عبد اللہ ہے اور وہی مہدی ہیں۔

امام مہدیؑ کی کرامت:

امام مہدیؑ ان داروین سے بیعت لینے کے بعد اپنی افواج کو لے کر آہستہ آہستہ وادی قریٰ کی طرف روانہ ہوں گے۔ وہاں ان کے چچا زاد بھائی بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ ان سے آکر ملیں گے اور کہیں گے کہ اے برادر عم! میں اس امر خلافت کا تم سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میں حضرت حسنؑ کی اولاد میں سے ہوں اور میں ہی مہدی ہوں، امام مہدیؑ ان سے کہیں گے کہ نہیں! مہدی تو میں ہوں! حسنی کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی نشانی بھی ہے جس سے آپ کا مہدی ہونا معلوم ہو جائے؟ اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں؟ اس پر امام مہدیؑ ایک اڑتے ہوئے پرندے کی طرف اشارہ فرمائیں گے، وہ ان کے سامنے آگرے گا اور زمین کے ایک کونے میں ایک خشک ٹہنی گاڑ دیں گے وہ اسی وقت سرسبز ہو کر برگ و بار لانے لگے گی۔ یہ کرامت دیکھ کر حسنی کہیں گے کہ اے برادر عم! یہ آپ ہی کا منصب ہے اور آپ ہی کو مبارک ہو اور یہ کہہ کر امام مہدیؑ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔

سفیانی کا بیعت کرنا:

حنسی سے بیعت لینے کے بعد امام مہدیؑ وہاں سے کوچ کریں گے اور شام و

حجاز کے درمیان شام کی سرحد کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالیں گے، وہاں پہنچ کر لوگ ان سے سفیانی پر لشکر کشی کا مطالبہ کریں گے لیکن امام مہدیؑ عجلت کو ناپسند سمجھیں گے اور فرمائیں گے کہ میں سفیانی کے پاس اپنی اطاعت کا پیغام بھیجتا ہوں، اگر اس نے میری اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تو میں تمہاری خواہش کے مطابق اس پر لشکر کشی کروں گا چنانچہ امام مہدیؑ سفیانی کو ایک خط لکھیں گے (جس میں اس سے اپنی بیعت و اطاعت کا مطالبہ کریں گے) جب وہ خط سفیانی کو ملے گا تو وہ اپنے مشیروں کے مشورے سے امام مہدیؑ کی بیعت کر لے گا اور وہاں سے روانہ ہو کر بیت المقدس جا پہنچے گا۔

پھر امام مہدیؑ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اہل شام میں سے کسی کے پاس بھی ذمیوں کی زمین نہیں رہنے دیں گے بلکہ ان سے لے کر ان کے ذمی مالکوں کے حوالے کر دیں گے خواہ وہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اور تمام مسلمانوں میں جہاد کی روح پھونک دیں گے۔

عہد شکنی:

سفیانی کی بیعت کے بعد قبیلۂ بنو کلب کا کنانہ نامی ایک شخص اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر سفیانی سے ملاقات کرے گا اور اس سے کہے گا کہ ہم نے تیری بیعت کی اور تیری مدد کی یہاں تک کہ جب تو زمین کا بادشاہ بن گیا تو تو نے اس آدمی یعنی مہدی کی بیعت کر لی؟ اور اس کو عار دلاتے ہوئے یہ بھی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک قیص پہنائی تھی تو نے اس کو کیوں اتار دیا؟ سفیانی کہے گا کہ میں تو مہدی کی بیعت کر چکا ہوں اور ان کا حامی بن کر رہنے کا وعدہ کر چکا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنا وعدہ توڑ دوں؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں! تم اپنا وعدہ توڑ دو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہی، بنو عامر کے تمام افراد بھی تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ کوئی آدمی بھی میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیرے گا۔ سفیانی ان کی باتوں میں آ کر بارادہ جنگ وہاں سے کوچ کر جائے گا اور اس کے ساتھ تمام بنو عامر بھی روانہ ہو جائیں گے۔ اور ایک

روایت میں یہ ہے کہ امام مہدیؑ سے بیعت کرنے کے تین سال بعد سفیانی عہد شکنی کرتے ہوئے اس بیعت کو خود ہی توڑ دے گا۔

سفیانی کا قتل:

امام مہدیؑ کو جب اس نقض عہد و بیعت کی اطلاع ملے گی تو وہ اپنے جھنڈے سمیت اس پر لشکر کشی کریں گے۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں سب سے بڑے جھنڈے کے ماتحت سوا افراد ہوں گے۔ سفیانی کا لشکر یعنی قبیلہ بنو کلب کے لوگ بھی (جو درحقیقت سفیانی کو نقض عہد پر برا بھلا سمجھنے والے تھے) صف بندی کر لیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ سفیانی کے لشکر میں سوار اور پیادہ ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہو جائیں گے تو لڑائی شروع ہو جائے گی اور شدید جنگ کے بعد قبیلہ بنو کلب کے لوگ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے، امام مہدیؑ کے لشکر انہیں قتل کرنا شروع کر دیں گے، مال غنیمت میں بہت سے قیدی بھی ہاتھ آئیں گے حتیٰ کہ ایک کنواری دو شیرہ باندی کو آٹھ درہم کے بدلے بیچا جائے گا۔

سفیانی پکڑ کر قید کر لیا جائے گا اور اسے امام مہدیؑ کے پاس لے جایا جائے گا، وہ اسے ایک کنیہ کے پاس موجود ایک چٹان پر بکری کی طرح ذبح کروادیں گے۔

مال غنیمت کی تقسیم:

سفیانی کے قتل سے فراغت کے بعد امام مہدیؑ مال غنیمت تقسیم فرمائیں گے، اسی موقع کے لیے حضور ﷺ کا یہ فرمان مبارک ہے:

﴿الغائب من خاب يومئذ من غنيمه كلب ولو بعقال،

قيل يا رسول الله! كيف يغنون اموالهم ويسبون

ذرايهم وهم مسلمون؟ قال ﷺ يكفرون

باستحلالهم الخمر والزنا﴾ (الاشاعره، ص ۲۱۲)

”اس دن وہ شخص سب سے بڑا محروم ہوگا جو بنو کلب کے مال

غنیمت سے محروم رہا (اس مال غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے) اگرچہ اونٹ کو باندھنے کی رسی ہی کیوں نہ ہو؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ لوگ ان کے اموال کو غنیمت اور بچوں کو ان کے مسلمان ہونے کے باوجود کیسے قیدی بنا لیں گے؟ فرمایا کہ وہ شراب اور زنا کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر قرار دیئے جائیں گے۔“

استحکام اسلام:

سفیانی کے قتل کے بعد اسلام کو استحکام نصیب ہوگا، امام مہدیؑ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، زمین کے تمام حکمران ان کی اطاعت میں داخل ہو جائیں گے، پھر امام مہدیؑ ہندوستان کی طرف ایک لشکر بھیجیں گے، وہ لشکر کامیاب ہوگا اور ہندوستان کو فتح کر کے وہاں کے حکمرانوں کو پابہ زنجیر امام مہدیؑ کی خدمت میں پیش کرے گا، ہندوستان کے خزانے بیت المقدس لے جائے جائیں گے اور ان سے بیت المقدس کی تزئین و آرائش کا کام لیا جائے گا اور اسی طرح کئی سال گزر جائیں گے۔

فائدہ:

یاد رہے کہ اس مقام پر ہندوستان سے صرف انڈیا مراد نہیں بلکہ اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ کیونکہ ہندوپاک کی یہ تقسیم تو اب ہوئی ہے، آج سے صرف ساٹھ سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یہ تقسیم نظر نہیں آئے گی۔

جنگ عظیم:

آپ پڑھ آئے ہیں کہ حضرت امام مہدیؑ، سفیانی کو بغاوت کے جرم میں قتل کرادیں گے اور زمین پر امن و امان قائم کر دیں گے، اسی امن و امان کے سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہوگی کہ رومی ان سے صلح کی درخواست کریں گے جس کی مدت بعض روایات

کے مطابق نو سال ہوگی اور ایک روایت کے مطابق سات سال ہوگی۔ امام مہدیؑ اس درخواست کو قبول فرمائیں گے اور صلح کی نوعیت یہ طے پائے گی کہ اگر مسلمان کہیں جہاد کے لیے جائیں گے تو رومی ان کی مدد کریں گے اور اگر رومیوں کو مسلمانوں کی امداد کی ضرورت پیش آئی تو مسلمان ان سے تعاون کریں گے چنانچہ اسی طرح کے ایک موقع پر مسلمان اور رومی اکٹھے ہوں گے، مسلمانوں کو فریق مخالف پر فتح حاصل ہو جائے گی اور وہ مال غنیمت لے کر واپس آ رہے ہوں گے کہ راستے میں مرج ذی تلول کے مقام پر ایک رومی صلیب کی بے کاری کرتے ہوئے کہے گا کہ دشمن کے مقابلے میں ہمیں صلیب کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی ہے۔ ایک مسلمان یہ سن کر اس کے جواب میں کہے گا کہ ہرگز نہیں! بلکہ اللہ نے ہمیں غلبہ اور فتح سے ہمکنار فرمایا ہے۔

یوں اس رومی اور مسلمان کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی، مسلمان رومیوں کی صلیب گرا دے گا اور صلیب کا گرنا تو اس کے لیے گویا شکست کی علامت ہوگا، چنانچہ رومی غصہ میں آ کر اس مسلمان کو قتل کر دے گا اور یوں فتنہ کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ مسلمان اپنے اسلحے کو لے کر رومیوں پر جا پڑیں گے اور ان سے اپنے مسلمان بھائی کا بدلہ لیں گے لیکن سب کے سب راہِ خدا میں شہادت کے معزز شرف سے مشرف ہو کر بارگاہِ خداوندی میں پہنچ جائیں گے۔ (ابوداؤد: حدیث نمبر ۴۲۹۲)

۹۶۰۰۰۰ فوج کا روانہ ہونا:

مسلمانوں کی اس جماعت کو شہید کرنے کے بعد رومیوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کے خواب دیکھنے لگیں گے چنانچہ وہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہیں گے کہ عرب کے بدترین لوگوں سے تو ہم نے آپ کی جان چھڑادی اور ان کے بہادروں، سوراؤں کو قتل کر دیا، اب آپ کس انتظار میں ہیں؟ بادشاہ روم ان کے توجہ دلانے پر فوج اکٹھی کرنا شروع کر دے گا اور صرف نو مہینوں میں اتنی بڑی فوج جمع کر لے گا کہ وہ ۸۰۰ دستوں پر مشتمل ہوگی اور ہر دستے میں ۱۲ ہزار سپاہی ہوں گے یعنی ۹۶۰۰۰۰

فوجیوں کو لے کر روانہ ہوگا اور مقام اعماق یا دابق میں پڑاؤ ڈالے گا۔

رومیوں کا مطالبہ اور لشکرِ اسلام کے تین حصے:

مسلمانوں کو رومیوں کے اس لشکر کی اطلاع ملے گی تو مدینہ منورہ سے انتہائی بہترین افراد پر مشتمل ایک وہ جماعت جو امام مہدیؑ کی معیت میں داد جہاد دے چکی ہو گی، نکلے گی اور مذکورہ مقام پر پہنچ کر صرف بندی کر لے گی اور رومی بھی صف بستہ ہو جائیں گے، اس کے بعد رومیوں میں سے ایک آدمی اپنی صف سے نکل کر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے تھے اور وہ ہمارے دین سے نکل کر تمہارے دین میں داخل ہو چکے ہیں اور اب تمہارے ساتھ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، مسلمان اس کے جواب میں کہیں گے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں اس لیے ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔

اس پر جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمان تین گروہوں میں بٹ جائیں گے۔

(۱) ایک تہائی لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی تو بہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔

(۲) ایک تہائی لشکر شہید ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔

(۳) ایک تہائی لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو سکیں گے۔

(مسلم شریف: ۷۲۷۸)

شام پر رومیوں کا قبضہ:

واقعہ کی یہ تفصیل تو سید برزنجی کے بیان کے مطابق ہے جبکہ شیخ نعیم بن حماد نے

کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے یہ روایت اس طرح مرفوعاً نقل کی ہے کہ سفیانی کی ہلاکت اور قتل کے بعد مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی اور اسی صلح کی بنیاد پر مسلمان رومیوں کے ساتھ مل کر ان کے دشمن کے خلاف لڑیں گے اور اس قدر جی داری کے ساتھ لڑیں گے کہ دشمن کو پیٹھ پھیر جانے پر مجبور کر دیں گے اور دشمن سے مال غنیمت حاصل کر لیں گے، رومی بھی مسلمانوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیں گے۔

کچھ عرصے کے بعد مسلمان اہل فارس سے جنگ کریں گے تو رومی ان کی مدد کریں گے اور اہل فارس کو قتل کر کے ان کے بچوں کو قیدی بنا لیں گے، جنگ میں کامیابی سے فارغ ہونے کے بعد رومی مسلمانوں سے مال غنیمت تقسیم کرنے کا مطالبہ کریں گے چنانچہ مسلمان انہیں مال و دولت اور مشرکین کے نابالغ بچے بطور مال غنیمت کے دیں گے لیکن اس سے آگے بڑھ کر رومی یہ مطالبہ کریں گے کہ تمہیں مسلمانوں کے جو بچے قیدیوں میں ملے ہیں، ہمیں ان میں سے بھی حصہ دو، مسلمان کہیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے بچے تمہارے حوالے کر دیں، اس پر رومی کہیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور قسطنطنیہ کے بادشاہ کے پاس جا کر دہائی دیں گے کہ عربوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے جبکہ ہم تعداد اسلحہ اور قوت میں ان سے زیادہ ہیں اس لیے آپ ہماری امداد کریں تاکہ ہم مسلمانوں سے انتقام لے سکیں لیکن قسطنطنیہ کا بادشاہ ان کی کسی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دے گا اور ان سے کہے گا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی اور وعدہ خلافی نہیں کر سکتا اور اب وہ ہم پر ہمیشہ غالب ہی رہیں گے۔

یہ لوگ یہاں سے مایوس ہو کر بادشاہ روم کے پاس آئیں گے اور اس کو تمام حالات سے مطلع کریں گے، وہ ان پر ترس کھا کر سمندر کے راستے ۸۰ جہنڈے روانہ کرے گا اور اس لشکر کے ہر جہنڈے کے ماتحت ۱۲ ہزار سپاہی ہوں گے۔ درمیان راستہ میں ان کا سپہ سالار فوج سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اے میرے سپاہیو! جب تم شام کے ساحل کو پار کر لو تو اپنی سوار یوں کو جلا دو تاکہ تمہارے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہ رہے اور تم خوب جی داری سے مقابلہ کر سکو چنانچہ وہ اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے

ایسا ہی کریں گے اور مسلمانوں سے اس بہادری کے ساتھ لڑیں گے کہ دمشق اور معق کے علاوہ پورے شام پر قابض ہو جائیں گے اور وہاں غارت گری کا بازار گرم کر دیں گے نیز مسجد اقصیٰ کو بھی ویران کر دیں گے۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس وقت دمشق میں کتنے مسلمان آسکیں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے، جتنے مسلمان اس میں سامنا چاہیں گے، سما جائیں گے بالکل اسی طرح جیسے ماں کا رحم بچے کے لیے کشادہ ہوتا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ! ”معتق“ کیا چیز ہے؟ فرمایا شام کے شہر حمص میں ایک پہاڑ ہے جس کے قریب ”اریط“ نامی ایک نہر ہوگی۔

رومیوں کی شکست:

رومیوں کے حملے کے وقت مسلمانوں کے بچے معتق (پہاڑ) کے اوپر والے حصے پر ہوں گے اور خود مسلمان نہر اریط پر ٹھہرے ہوئے ہوں گے اور صبح سے لے کر شام تک رومیوں سے قتال کیا کریں گے، ادھر قسطنطنیہ کے گورنر کو جب اس کی خبر لگے گی تو وہ خشکی کے راستے قسرسین کی طرف تین لاکھ فوج کے ساتھ روانہ ہوگا، راستے میں یمن سے بھی ہزاروں آدمی اس سے آکر مل جائیں گے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے محبت والفت پیدا فرمادیں گے، ان میں سے ۴۰ ہزار تو فقط قبیلہ حمیر ہی کے جانا باز ہوں گے۔

قسطنطنیہ کا گورنران کے ساتھ بیت المقدس پہنچے گا اور رومیوں سے قتال کر کے ان کو شکست سے دوچار کر دے گا، اس کے بعد وہ لشکر مختلف چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر قسرسین کے پاس آکر پڑاؤ کرے گا اور وہاں آکر ان سے مادۃ الموائی بھی مل جائیں گے۔

ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ مادۃ الموائی کون لوگ

ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ تمہارے ہی آزاد کردہ لوگ ہوں گے جو فارس کی جانب سے آئیں گے اور اہل عرب سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے جماعت عرب! تم نے عصیبت کی راہ اختیار کی، اس وجہ سے تم مغلوب ہو گئے اور جب تک تم تعصب اختیار کیے رہو گے، مغلوب ہی رہو گے اس لیے اب تم سب کو مجتمع ہو جانا چاہیے چنانچہ سب مسلمان جمع ہو کر حملہ کریں گے لیکن ان میں سے ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے، ایک تہائی بھاگ کھڑے ہوں گے اور ایک تہائی باقی بچیں گے۔

جو مسلمان اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے ان میں سے ہر شہید کا درجہ ثواب کے اعتبار سے دس شہداء بدر کے برابر ہوگا اور اللہ کے نزدیک شہداء بدر کی اتنی عزت ہے کہ ان میں سے ایک کی شفاعت ستر شہداء کے برابر ہوگی (اس اعتبار سے اس جنگ میں جو مسلمان شہید ہوں گے، ان کی شفاعت ۷۰۰ شہداء کے برابر ہوگی لیکن یہ بات ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ آنے پائے کہ اس طرح تو پھر یہ لوگ صحابہ کرامؓ سے افضل ہو گئے؟ اس لیے کہ نبی اکرم ﷺ کی فقط صحبت مبارک ہی ایسی چیز ہے کہ کوئی چیز اس سے بڑھ کر تو کیا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس جہت سے ان لوگوں کی فضیلت تسلیم کر بھی لی جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہمہ پہلو یہ ملوگ صحابہ کرامؓ سے افضل ہو گئے۔)

باقی ماندہ لشکر کے تین حصے:

باقی ماندہ ایک تہائی لشکر پھر تین حصوں میں بٹ جائے گا۔

(۱) ایک تہائی حصہ رومیوں کے ساتھ جا ملے گا اور کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس دین (اسلام) کی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ اس کی ضرورت مدد کرتا۔

(۲) عرب کے مسلمان جو ایک تہائی ہوں گے، کہیں گے کہ کسی ایسی جگہ جا کر آباد ہو جاؤ جہاں ہم تک رومیوں کی پہنچ نہ ہو سکے مثلاً کسی دور دراز کے دیہات وغیرہ میں یا عراق، یمن اور حجاز کے ایسے علاقوں میں جہاں رومی نہ پہنچ سکیں۔

(۳) ایک تہائی حصہ کے افراد ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کو یوں نصیحت اور عہد و پیمان کریں گے کہ اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، اپنی عصیت کو چھوڑ کر مجتمع ہو کر دشمن سے قتال کرو اس لیے کہ قبائلی عصیت کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ہرگز مدد نہیں آسکتی چنانچہ وہ سب متحد ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے اس بات پر بیعت کریں گے کہ اب میدان جنگ سے اسی وقت نہیں گے جب اپنے شہید بھائیوں کے ساتھ جا ملیں گے۔ (مردتے دم تک لڑتے رہیں گے)

جبرئیل و میکائیل کا فرشتوں کی فوج لے کر اترنا:

ادھر جب رومی دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں سے اتنے سارے افراد ہمارے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کی معتد بہ مقدار قتل ہو چکی ہے اور اب تھوڑے سے لوگ بچے ہیں تو ایک دن ایک رومی دونوں لشکروں کے درمیان کھڑا ہوگا، اس کے پاس ایک جھنڈا ہوگا جس کے اوپر صلیب لگی ہوئی ہوگی اور وہ یہ نعرہ لگائے گا صلیب کی بے، صلیب غالب ہوگئی، مسلمانوں کو یہ کلمہ انتہائی ناگوار گزرے گا اور ایک مسلمان دونوں لشکروں کے درمیان جھنڈا لے کر کھڑے ہو کر کہے گا کہ اللہ کے دوست اور مددگار غالب ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ کو بھی رومیوں کے یہ کہنے پر، کہ صلیب غالب آگئی، غصہ آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو مسلمانوں کی مدد کے لیے دو ہزار فرشتوں کے ساتھ نازل فرمائیں گے، اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی دو ہزار فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی فریاد رسی کا حکم ہوگا۔ اس غیبی امداد سے مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہو جائیں گے اور کفار و مشرکین شکست کھا کر بھاگ جائیں گے۔

رومیوں کی دھوکہ دہی:

اس جنگ میں رومیوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمان سرزمین روم پر چڑھائی کر دیں گے اور بلند بولتے ہوئے عمورانا می جگہ تک جا پہنچیں گے، عمورا کے شہر پناہ

پر ایک خلقت کثیر جمع ہوگی اور وہ جزئیہ ادا کرنے کے اقرار پر مسلمانوں سے امان چاہیں گے، مسلمان ان کو امان دیدیں گے۔

امان کی یہ خبر پھیلنے پر مختلف اطراف سے رومی آ آ کر یہاں جمع ہوں گے اور کہیں کہ اہل عرب! تمہارے پیچھے تمہاری اولاد میں دجال آگھسا۔ مسلمان یہ سن کر واپس لوٹ آئیں گے لیکن خروج دجال کی یہ خبر جھوٹی ہوگی، ادھر رومی یہ افواہ پھیلا کر مسلمانوں کے جانے کے بعد یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ تمام وہ اہل عرب جو ان کے شہروں میں رہائش پذیر ہوں گے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت یا بچے، سب کو قتل کر دیں گے۔

مسلمانوں کو جب اپنے بھائیوں کے قتل اور رومیوں کی اس غداری کی خبر ملے گی تو وہ غضب ناک ہو کر دوبارہ واپس آ جائیں گے اور رومیوں کے لڑاکا افراد کو قتل کر کے ان کے بچوں کو قیدی بنالیں گے اور مال غنیمت جمع کر لیں گے اور جس شہر یا قلعے کو فتح کرنا چاہیں گے، تین دن کے اندر اندر فتح کر لیں گے۔

خلیج کا محاصرہ:

روم کے چھوٹے چھوٹے شہروں کو فتح کرنے کے بعد مسلمان خلیج کے کنارے پڑاؤ کریں گے جو کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان حائل ہوگا، مسلمانوں کی آمد پر اس کے پانی میں طغیانی آ کر اضافہ ہو جائے گا، یہ دیکھ کر قسطنطنیہ کے باشندے کہیں گے کہ صلیب نے ہمارے لیے سمندر کو پھیلا دیا اور مسیح نے ہماری مدد کی، اس لیے اب مسلمان ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔

لیکن اگلے ہی دن ان کے اس کفریہ قول کے علی الرغم خلیج خشک ہونا شروع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ معجزہ کے طور پر مسلمانوں کی مدد کے لیے بنی اسرائیل کی طرح اس کو خشک کر دیں گے اور مسلمان اس سے پار ہو کر شب جمعہ کو اس شہر کا محاصرہ کر لیں گے اور ساری رات ایک آدمی بھی نہ سوئے گا اور نہ بیٹھے گا بلکہ سارا لشکر تکبیر و تہلیل اور تحمید و تمجید میں مصروف رہے گا، طلوع فجر کے بعد مسلمان ایک زور دار نعرہ تکبیر بلند کریں گے جس

کی برکت سے شہر کے دونوں برجوں کے درمیان والا حصہ گر جائے گا۔

خروج دجال:

اب بجائے اس کے کہ رومی سنبھل جائیں اور مسلمانوں کی اس تائید نبی کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں، اور زیادہ سرکشی پر آمادہ ہو جائیں گے اور یہ کلمہ کفر بکنا شروع کر دیں گے کہ آؤ! اب تک تو ہم اہل عرب سے لڑتے رہے، اب پہلے اپنے رب سے لڑ کر اس سے نمٹ لیں جس نے ہمارے شہر کو منہدم اور برباد کر دیا لیکن مسلمان ان پر حملہ کر کے اس جنگ میں قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے اور اسی اثناء میں واقعۃً دجال نکل آئے گا، اس کے کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجالی افواج کا مقابلہ کریں گے۔

جنگ خلیج کی تفصیل ایک دوسری روایت سے:

خلیج کی اس جنگ کی تفصیل ایک دوسری روایت میں اس سے ذرا مختلف ہے اور وہ یہ کہ خلیج پر پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ آپس میں یہ عہد کرے گا کہ ہم غالب ہو کر ہی واپس آئیں گے ورنہ وہیں جان دیدیں گے چنانچہ وہ جا کر رومیوں سے قتال کریں گے اور یہاں تک لڑیں گے کہ رات ان دونوں لشکروں کے درمیان حائل ہو کر انہیں جدا کرے گی، مسلمانوں کا وہ دستہ مکمل شہید ہو جائے گا اور بقیہ ماندہ لشکر بغیر ہار جیت کے فیصلے کے واپس چلا جائے گا، تین دن تک یہی سلسلہ جاری رہے گا، چوتھے دن تمام مسلمان مل کر اکٹھا حملہ کریں گے جس میں کافروں کو شکست ہو جائے گی اور اس قدر کافر قتل ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے کافر قتل نہ ہوئے ہوں گے حتیٰ کہ اگر ایک پرندہ ان کی لاشوں پر سے گزر کر ایک سرے سے دوسرے سرے پر پہنچنا چاہے گا تو ان کے تعفن اور بدبو کی وجہ سے یا لمبی مسافت کی وجہ سے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی گر کر مر جائے گا۔

مسلمان شکست خوردہ رومیوں کا تعاقب کرتے ہوئے خلیج کے کنارے جا پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر ان کے قائد حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سمندر کے قریب فجر

کے وضو کے لیے اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے لیکن وہ وضو کے لیے آگے بڑھیں گے تو پانی اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا، یہ دیکھ کر امام مہدیؑ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا تھا، اسی طرح تمہارے لیے بھی راستہ بنا دیا ہے اس لیے تم اس کو بے خوف و خطر عبور کر جاؤ۔ چنانچہ مسلمان اس کو عبور کر لیں گے اور سمندر پھر پہلے کی طرح ہو جائے گا۔

اب مسلمان شہر پناہ کے قریب پہنچ کر تین مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے جس سے ایوان کفر کی دیواریں لرز اٹھیں گی اور تیسری تکبیر پر اس کے بارہ کے بارہ برج گر پڑیں گے اور یوں وہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گا، مسلمان وہاں ایک سال تک اقامت گزین رہیں گے اور اسی دوران وہاں پر مساجد بھی تعمیر کریں گے۔

پھر مسلمان دوسرے شہر میں داخل ہوں گے، وہاں فتح حاصل کرنے کے بعد وہ ابھی مال غنیمت تقسیم کر ہی رہے ہوں گے کہ ایک چیخنے والا چیخے گا کہ اے لوگو! شام میں تمہارے پیچھے دجال نکل آیا، مسلمان یہ سن کر واپس آ جائیں گے لیکن واپس پہنچنے پر معلوم ہو گا کہ یہ خبر جھوٹی تھی اس لیے مسلمان ایک ہزار کشتیوں پر مقام عکا سے سوار ہو کر اٹلے پیروں روم واپس چلے جائیں گے۔ (مسلم شریف: ۷۲۲)

بیت المقدس کا خزانہ:

تواریخ میں یہ بات مذکور ہے کہ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے طاہر بن اسماعیل نامی شخص کو ان پر مسلط فرما دیا چنانچہ اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے خوب قتل و غارت گری کی اور بیت المقدس، جو یہودیوں کا مذہبی عبادت خانہ تھا، کو تہس نہس کر کے اس کے تمام زیورات اور آرائش و تزئین کا سامان سمندری راستے سے ۷۰۰ کشتیوں پر لاد کر اپنے ساتھ روم لے گیا۔

جب حضرت امام مہدیؑ رضوان اللہ علیہ روم کو فتح فرمائیں گے تو اس خزانے کو تلاش کروا کر بیت المقدس بھجوا دیں گے، نیز تابوت سکینہ، ماندہ بنی اسرائیل، الواح

تورات کے ٹکڑے، حضرت آدم علیہ السلام کا لباس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے کھانے ”من“ کے دو قہیز جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوں گے، کو بھی تلاش کروائیں گے۔ اس سلسلے میں امام قرطبیؒ نے تذکرہ میں حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کی طویل حدیث ذکر کی ہے۔ ملاحظہ ہو:

حضرت حذیفہؓ نے حضور ﷺ سے نقل کیا ہے جس میں آپ نے یہ آیت قرآنی ”ذَلِكْ لِهَمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلِهَمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ“ پڑھنے کے بعد فرمایا کہ پھر مہدیؑ اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے، وہ شہر اناطکیہ میں آئیں گے جو کہ سمندر کے کنارے ایک بڑا شہر ہے اور اس پر تین مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے جس کی برکت سے قدرت خداوندی اس کی سمندری شہر پناہ کو گرا دے گی اور مسلمان، رومیوں کے مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیں گے اور ان کے مال و دولت پر قبضہ کر لیں گے۔

یوں امام مہدیؑ کا اناطکیہ پر تسلط قائم ہو جائے گا اور وہ اس میں مساجد اور اسلامی طرز تعمیر کی عمارتیں بنوائیں گے، اس کے بعد شہر رومیہ، قسطنطنیہ اور کنینہ الذہب کا رخ کریں گے، چنانچہ قسطنطنیہ اور رومیہ میں داخل ہو کر وہاں کے لوگوں سے قتال کریں گے اور چار لاکھ لڑاکا رومیوں کو تہ تیغ کر دیں گے۔ اس جنگ میں ستر ہزار باکرہ دوشیزائیں بطور باندی کے مال غنیمت میں حاصل ہوں گی۔

اسی طرح شہروں اور قلعوں کو فتح کرتے ہوئے، ان کے مال و دولت کو غنیمت بناتے ہوئے، مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بناتے ہوئے جب آپ کنینہ الذہب میں پہنچیں گے تو وہاں ایسا مال و دولت پائیں گے جس کو انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا اور اس پر قبضہ کیا ہوگا اور یہ وہ مال و دولت ہوگا جو بادشاہ روم قیصر نے اس کنینہ میں اس وقت رکھا تھا جب اس نے اہل بیت المقدس سے جنگ کی تھی اور یہ مال و دولت وہاں پا کر اسے اپنے ساتھ ستر ہزار کشتیوں پر لاد کر لے آیا تھا اور بیت المقدس میں اس خزانے میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ امام مہدیؑ اس خزانے پر قبضہ کر کے اسے واپس

بیت المقدس بھجوادیں گے۔

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر تو بیت المقدس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہوا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں! بیت المقدس بڑا عظیم گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے ذریعے سونے، چاندی، موتی، یاقوت اور زمرد سے بنوایا تھا اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا اور وہ حضرت سلیمان کے پاس سونے، چاندی کی کانوں میں سے سونا، چاندی اور سمندروں سے جواہرات، یاقوت اور زمرد لے کر آتے تھے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَالشَّيْطٰنُ كُلُّ بَنٰٓءٍ وَّغَوٰٓصٍ﴾ (ص: ۳۷)

”ہم نے حضرت سلیمان کو معمار اور غوطہ زن جنات پر تسلط دے دیا۔“

ان چیزوں کے ذریعے حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی اس طرح تعمیر شروع کی کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اسی طرح کچھ ستون سونے کے اور کچھ چاندی کے تھے اور اس کو موتیوں، یاقوت اور زمرد سے مزین کیا۔

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر بیت المقدس سے یہ چیزیں کیسے غائب ہو گئیں؟ فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک مجوسی بخت نصر کو مسلط کر دیا اور سات سو سال تک اس کی حکومت قائم رہی۔ ارشاد خداوندی ”فاذا جاء وعد اولہما.....“ الخ سے یہی مراد ہے۔

بخت نصر کے سپاہیوں نے بیت المقدس میں داخل ہو کر مردوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا اور ان کے اموال اور بیت المقدس میں موجود تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا اور اس کو ستر ہزار کشتیوں پر لاد کر بائبل آئے اور بنی اسرائیل کو وہاں بسا کر سینکڑوں سال تک ان سے خدمت لیتے اور سخت عذابوں میں مبتلا کرتے رہے۔

پھر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور انہوں نے ملک فارس کے ایک بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بیت المقدس جا کر بنی اسرائیل کو آزاد کرائے، چنانچہ وہ بادشاہ، فارس سے روانہ ہو کر بائبل پہنچا اور بقیہ بنی اسرائیل کو مجوسیوں کے ہاتھ سے آزاد کرایا اور بیت المقدس کے خزانوں کو بھی واپس بھجوادیا نیز بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو! اگر تم دوبارہ اپنی سابقہ روشن پروا پس آگئے تو تمہارے ساتھ پھر یہی سلوک ہوگا جو اب ہوا اور ارشاد باری تعالیٰ: ”عسی ربکم ان یرحمکم.....“ الخ سے یہی مراد ہے لیکن بنی اسرائیل بیت المقدس واپس آنے کے کچھ عرصے بعد دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسپر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ روم قیصر کو ان پر مسلط کر دیا، ارشاد خداوندی ”فاذا جاء وعد الاخرة.....“ الخ سے یہی مراد ہے۔

قیصر روم نے بردمحر سے ان پر لشکر کشی کی اور خوب قتل و قتل کیا اور ان کے اموال اور عورتوں کو لے گیا اور بیت المقدس کے تمام خزانوں کو جمع کر کے ستر ہزار کشتیوں پر لاد کر کنیتہ الذہب میں لا کر رکھ دیا اور وہ اب تک وہیں ہے جب امام مہدیؑ تشریف لائیں گے تو وہ اس کو حاصل کر کے بیت المقدس واپس بھجوادیں گے اور ان کے زمانے میں مسلمان، مشرکین پر غالب آ جائیں گے۔ (تذکرہ للقرطبی: ج ۱، ص ۷۰۳ تا ۷۰۶)

نعرہ تکبیر سے شہر فتح ہو جائے گا:

قصہ کوتاہ یہ کہ امام مہدیؑ بیت المقدس کے خزانے بھجوانے کے بعد تابوت سیکینہ وغیرہ اشیاء کو لے کر ”قاطع“ نامی شہر میں تشریف لائیں گے، جس کی لمبائی ایک ہزار میل، چوڑائی ۵۰۰ میل اور ۳۶۰ دروازے ہوں گے، امام مہدیؑ اس کا محاصرہ کر لیں گے لیکن وہ شہر بھی سمندر پار ہوگا اور عجیب تر بات یہ ہوگی کہ اس سمندر کو عبور کرنے کے لیے کشتی بھی کام نہ آئے گی، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کشتی کیوں کام نہیں آئے گی؟ فرمایا اس لیے کہ وہ دریا زیادہ گہرا نہیں ہوگا البتہ مسلمان اس سمندر کے درمیان چلتے ہوئے اس کو عبور کر لیں گے اور وہاں پہنچ کر چار مرتبہ باواز بلند نعرہ تکبیر بلند کریں

گے جس کی شدت تاثیر کی وجہ سے اس کی شہر پناہ گر جائے گی اور مسلمان فاتحانہ انداز سے شہر میں داخل ہو کر مال غنیمت حاصل کر لیں گے اور وہاں سات سال گزار کر بیت المقدس واپس آ جائیں گے، یہاں پہنچ کر انہیں خروج دجال کی خبر معلوم ہوگی۔

پوری دنیا کی حکمرانی:

ہر وہ شہر جس میں سکندر ذوالقرنین فاتحانہ داخل ہوئے تھے، ان تمام شہروں کو حضرت امام مہدیؑ فتح کر کے وہاں پر امن و امان قائم کر دیں گے اور لوگوں کو ہر قسم کے ظالموں سے پناہ دے دیں گے اور جس وقت دجال کا خروج ہوگا، آپؑ بیت المقدس میں ہوں گے۔

امام مہدیؑ کی اس شاندار فتح اور پوری دنیا پر حکومت کو حضور ﷺ نے یوں بیان فرمایا ہے:

﴿مَلِكِ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا وَكَافِرًا أَمَّا الْمُؤْمِنَانِ فَذُو الْقُرْنَيْنِ

وَسَلِيمَانَ وَأَمَّا الْكَافِرَانِ فَنَمْرُودُ وَبَنَاتُ نَصْرٍ.

وَسَيَمْلِكُهَا خَامِسٌ مِنْ عَتْرَتِي وَهُوَ الْمَهْدِيُّ﴾

”پوری دنیا کے حکمران دو مومن اور دو کافر ہوئے ہیں، مومن تو

حضرت سلیمان اور ذوالقرنین تھے، اور کافر نمروذ اور بنات نصر تھے۔

اور عنقریب میری اولاد میں سے ایک آدمی جس کا پوری دنیا میں

حکمرانی میں پانچواں نمبر ہوگا، آئیگا (اور پوری دنیا کا مالک ہو

جائے گا) اس کا نام مہدی ہوگا“

جنگِ خلیج کے بعد کیا ہوگا؟

جنگِ خلیج سے فارغ ہونے کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر یہ افواہ اڑے گی کہ دجال نکل آیا۔ لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی تاہم کچھ عرصے بعد واقعہ دجال نکل آئے گا اور زمین میں خوب فتنہ و فساد پھیلانے گا (جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں) اور مخلوق

خدا کو گمراہ کرتا ہوا دمشق پہنچے گا، حضرت امام مہدیؑ بھی وہاں پہنچ چکے ہوں گے، وہ مسلمانوں کو جمع کر کے دجال کے ساتھ مقابلہ کا ارادہ کر لیں گے۔ لیکن اس وقت مسلمان انتہائی سختی کے عالم میں ہوں گے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں کا دجال کے ساتھ ٹکراؤ بیت المقدس میں

ہوگا۔ ملاحظہ ہو:

﴿يَحَاصِرُ الدَّجَالَ الْمُؤْمِنِينَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَيَصِيهِمُ
جُوعَ شَدِيدٍ حَتَّىٰ يَأْكُلُوا أَوْتَارَ قَسِيهِمْ مِنَ الْجُوعِ
فَيَنْمَاطُونَ انْ هَذَا لِصَوْتِ رَجُلٍ شَبَعَانَ فَيَنْظُرُونَ فَاذًا
بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَتَقَامُ الصَّلَاةُ فَيَرْجِعُ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ
الْمَهْدَى فَيَقُولُ عِيسَى تَقَدَّمَ فَلِكِ أَقِيمَتِ الصَّلَاةِ
فَيُصَلِّيْ بِهَمِ ذَلِكَ الرَّجُلِ تِلْكَ الصَّلَاةُ قَالَ ثُمَّ
يَكُونُ عِيسَى إِمَامًا بَعْدَهُ﴾

(کتاب البرہان: ج ۲ ص ۸۰۵)

”دجال بیت المقدس میں مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا اور مسلمان سخت بھوک کا شکار ہوں گے حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے اپنی کمانوں کی تانتیں کھالیں گے اور اسی حال میں ہوں گے کہ طلوع صبح صادق کے بعد کچھ آوازیں سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو کسی پیٹ بھرے ہوئے آدمی کی آواز ہے چنانچہ لوگ دیکھیں گے تو اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کے امام مہدیؑ پیچھے کوٹھیں گے (اور کہیں گے کہ آئیے! نماز پڑھائیے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم ہی آگے رہ کر (نماز پڑھاؤ) کیونکہ نماز کی اقامت تمہارے ہی لیے ہوئی

ہے چنانچہ وہ نماز تو امام مہدیؑ پڑھائیں گے اور بعد کی نمازوں میں حضرت عیسیٰؑ امامت فرمائیں گے۔“

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلہ نے اپنی کتاب ”علامات قیامت اور نزول مسیح“ میں علامات قیامت کو ترتیب زمانی کے ساتھ مرتب فرمایا ہے۔ یہاں اس موضوع سے متعلق ان کی بیان کردہ ترتیب کو نقل کیا جاتا ہے:

”یہاں تک کہ مومنین اردن و بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے اور دجال شام میں (فلسطین کے ایک شہر تک) پہنچ جائے گا (جو باب لد پر واقع ہوگا) اور مسلمان ”ایق“ نامی گھاٹی کی طرف سمت جائیں گے، یہاں سے وہ اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، بالآخر مسلمان (بیت المقدس کے) ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے جس کا نام ”جبل الدخان“ ہے اور دجال (پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر) مسلمانوں (کی ایک جماعت) کا محاصرہ کر لے گا، یہ محاصرہ سخت ہوگا جس کے باعث مسلمان سخت مشقت (اور فقر و فاقہ) میں مبتلا ہو جائیں گے حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کی تانت جلا کر کھائیں گے۔ دجال آخری بار ”اردن“ کے علاقے میں ”ایق“ نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا، اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو گا، وادی اردن میں موجود ہوگا، وہ ایک تہائی مسلمانوں کو قتل کر دے گا، ایک تہائی کو شکست دے گا اور صرف ایک تہائی مسلمان باقی بچیں گے (جب یہ محاصرہ طول کھینچے گا) تو مسلمانوں کا امیران سے کہے گا کہ (اب کس کا انتظار ہے) اس سرکش سے جنگ کرو (تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے) چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی (نماز فجر کے بعد)

دجال سے جنگ کریں گے۔“

وہ رات سخت تاریک ہوگی اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی۔ (کہ تمہارا فریاد رس آپہنچا) لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی شکم سیر کی آواز ہے۔ غرض (نماز فجر کے وقت) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔

نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے

ہوں گے۔“ (علامات قیامت اور نزول صبح ۱۵۳ تا ۱۵۵)

اسی کتاب کے ص ۱۵۷ پر ”مقام نزول، وقت نزول اور امام مہدیؑ“ کا عنوان

قائم کر کے تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید مینارے کے پاس (یا بیت المقدس میں امام مہدیؑ کے پاس) ہوگا۔ اس وقت امام (مہدیؑ) نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، امام (مہدیؑ) حضرت عیسیٰ کو امامت کے لیے بلائیں گے مگر وہ انکار کریں گے اور فرمائیں گے کہ (یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ) اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔ جب امام (مہدیؑ) پیچھے ہٹنے لگیں گے تو آپ (ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر) فرمائیں گے تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے، چنانچہ اس وقت کی نماز امام مہدیؑ ہی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰؑ بھی ان کے پیچھے پڑھیں گے اور رکوع سے اٹھ کر ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کے بعد یہ جملہ فرمائیں گے۔ ”قتل اللہ الدجال و اظهر المؤمنین۔“

”غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ

کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ ستر ہزار مسلح یہودی ہوں گے، آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ الخ“

روایات کی اس تفصیلی ترتیب سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کے بعد ان کی کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ سے خونریز جنگیں ہوں گی حتیٰ کہ جنگ خلیج (جنگ قسطنطنیہ) سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا جس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، نزول عیسیٰ کے بعد حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا اس لیے وہ حکومت و سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے اور دو سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں رہ کر انتقال فرما جائیں گے۔

جبکہ بعض علماء کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول عیسیٰ کے بعد بھی انتظامی معاملات حضرت امام مہدیؑ کے پاس ہی رہیں گے اور امام مہدیؑ کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ ان کو سنبھال لیں گے اور اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کیونکہ اگر امام مہدیؑ ہی خلیفہ و منتظم ہوں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔

﴿ حضرت امام مہدیؑ کی وفات ﴾

﴿ اور ان کی مدت حکومت ﴾

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب اپنے رسالہ ”علامات قیامت“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”آپ کی خلافت کی میعاد سات یا آٹھ یا نو سال ہوگی۔ واضح رہے کہ سات سال بیسیائیوں کے فتنے اور ملک کے انتظام میں،

آٹھواں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں اور نوواں سال حضرت عیسیٰؑ کی معیت میں گذرے گا اس حساب سے آپ کی عمر ۴۹ سال کی ہوگی۔ بعد ازاں امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر دفن فرمائیں گے، اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کے ہاتھ میں آجائیں گے۔“

حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ تحریر فرماتے ہیں:

”روایات و آثار کے مطابق ان کی عمر چالیس برس کی ہوگی جب ان سے بیعت خلافت ہوگی۔ ان کی خلافت کے ساتویں سال کا نا دجال نکلے گا، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، حضرت مہدی علیہ الرضوان کے دو سال حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کی معیت میں گزریں گے اور ۴۹ برس میں ان کا وصال ہوگا۔“ (آپ کے مسائل اور ان کا حل: ج ۷، ص ۲۶۸)

ظہور کے وقت امام مہدیؑ کی عمر:

ظہور کے وقت حضرت امام مہدیؑ کی عمر کے سلسلے میں مختلف روایات موجود ہیں لیکن ان میں سے کسی روایت کو ترجیح دینا یا ان مختلف روایات میں تطبیق دینا بہت مشکل ہے البتہ یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ مختلف روایات میں مختلف مواقع کی مدت بیان کی گئی ہو۔ چنانچہ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن ص ۲۵۸ اور ص ۲۵۹ پر اس قسم کے کئی اقوال نقل کیے ہیں۔

- (۱) کعب فرماتے ہیں کہ امام مہدی کی عمر ۵۱ یا ۵۲ سال ہوگی۔
- (۲) عبداللہ بن الحارث کہتے ہیں کہ امام مہدیؑ کی عمر خروج کے وقت ۴۰ سال ہوگی۔ (غالباً اسی پر شاہ رفیع الدین نے جزم فرمایا ہے)

(۳) صقر بن رستم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ امام مہدیؑ جب حجاز سے دمشق پہنچ کر اس کی جامع مسجد کے منبر پر رونق افروز ہوں گے تو ۱۸ سال کے ہوں گے۔

(۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت کے آخر میں ان کے ظہور کے وقت ۳۰ سے ۴۰ سال کے درمیان عمر کا بیان ہے۔

(۵) ارطاة کے کہتے ہیں کہ امام مہدیؑ کی عمر ۶۰ سال ہوگی۔

(۶) "القول المختصر" ص ۲۷ پر امام مہدیؑ کی مدت حکومت سات سال بیان کی گئی ہے جبکہ اسی کتاب کے ص ۵۳ پر تیس یا چالیس سال کی ذکر کی گئی ہے اور ص ۵۸ پر ۳۹ سال، زمین پر پٹھرنے کی مدت ۴۰ سال، اس سے اگلی سطر میں ان کی زندگی کا تیس سالہ ہونا مذکور ہے۔ نیز ۱۴ سال کا بھی ذکر موجود ہے۔

ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ چونکہ اکثر روایات میں حضرت امام مہدیؑ کی عمر ۴۰ سال مذکور ہے اس لیے اس سے مراد حضرت امام مہدیؑ کی عمر کا وہ حصہ ہے جو بیعت سے پہلے انہوں نے گزارا ہوگا یعنی بیعت کے وقت ان کی عمر ۴۰ سال ہوگی، اس کے بعد سات سال تک وہ مسند خلافت پر رونق افروز رہیں گے جیسا کہ علامہ ابن حجر بیہمیؒ نے اپنی کتاب القول المختصر کے ص ۲۷ پر اسی کو مشہور قرار دیا ہے اور چونکہ یہ سات سال ان کی مدت حکومت کے ہوں گے جس کے بعد بھی وہ زندہ رہیں گے اس لیے اتنی مدت تو ماننا پڑے گی جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے لشکر سے مقابلہ کرنے میں شریک ہو سکیں لیکن روایات سے اس کی تعیین نہیں ہوتی البتہ شاہ رفیع الدینؒ اور حضرت لدھیانویؒ نے تخمیناً سات سال مدت حکومت کے بعد دو سال مزید ذکر کیے ہیں۔

جبکہ طبرانی میں حضرت ابو امامہؓ سے ایک مرفوع روایت منقول ہے جس میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں کہ حضور ﷺ نے امام مہدیؑ کی عمر ۴۰ سال ذکر فرمائی اور پھر فرمایا۔

﴿یملک عشر سنین﴾

”وہ دس سال حکومت کریں گے۔“

اس مرفوع روایت کو لینے کے بعد مذکورہ تطبیق پھر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں تو واضح طور پر ان کی مدت حکومت دس سال ذکر کی گئی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقة الکلام۔

امام مہدیؑ کا انتقال طبعی ہوگا:

البتہ اتنی بات ضرور واضح ہے کہ حضرت امام مہدیؑ اپنی مقررہ مدت عمر پوری کرنے کے بعد اپنی طبعی موت سے انتقال فرمائیں گے چنانچہ شیخ علی نقیؑ نے کتاب البرہان ج ۲ ص ۸۳۶ پر نقل کیا ہے۔

﴿ثم يموت علی فراشه﴾

”پھر امام مہدیؑ کا اپنے بستر پر انتقال ہو جائے گا۔“

یعنی وہ طبعی طور پر وفات پا جائیں گے، امام مہدیؑ کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور ان کو بیت المقدس ہی میں سپرد خاک کر دیں گے چنانچہ حضرت کاندھلویؒ تحریر فرماتے ہیں:

﴿ویصلی علیہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام ویدفنه فی بیت


المقدس کذا فی شرح العقیة السفارینیة ص ۸۱ ج ۲﴾

(التعلیق الصبیح ج ۶ ص ۲۰۳)


”اور ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور ان

کو بیت المقدس میں دفن کریں گے۔“

باب ششم



احادیث و آثار متعلقہ بالامام المہدیؑ



ظہور مہدیؑ سے متعلق صحیحین کی آٹھ روایات

نیز ۳۷ صحابہ و صحابیات علیہم الرضوان کی

ظہور مہدیؑ سے متعلق مرویات

﴿احادیث و آثار متعلقہ بالامام المہدیؑ﴾

اس سے قبل ظہور مہدی کے متعلق عقیدے کی تفصیلی بحث میں آپ ان صحابہ و صحابیات کے اسماء گرامی مع حوالہ جات پڑھ چکے ہیں جن سے امام مہدی کے متعلق روایات مروی ہیں۔ یہاں ان کی روایات ذکر کی جاتی ہیں اور اس سے قبل وہ روایات بھی ذکر کرنا مقصود ہیں جو امام مہدی سے متعلق صحیحین (بخاری و مسلم) میں موجود ہیں، اس سے بعض لوگوں کے اس اعتراض کا بھی جواب جائے گا کہ روایات مہدی صحیحین میں نہیں۔

﴿صحیحین کی وہ روایات جو امام مہدی سے متعلق ہیں﴾

(۱) صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

﴿قال رسول اللہ ﷺ كيف انتم اذا نزل ابن مريم

فيكم واماكم منكم﴾ بخاری ۳۳۳۹، مسلم حدیث نمبر ۳۹۲

”حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں

ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں کا ہوگا“

اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری ”وامامکم منکم“ کے مصداق پر بحث

کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

﴿منکم ای من اهل دینکم و قیل من قریش و هو المہدی

والحاصل ان امامکم واحد منکم دون عیسیٰ فانہ بمنزلۃ

الخلیفۃ و قیل فیہ دلیل علی ان عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ

والسلام لا یكون من امة محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام بل

مقررًا لملته معینا لامته علیہما السلام و فی شرح السنۃ

قال معمر وانکم و امامکم منکم و قال ابن ابی ذئب عن

ابن شہاب فامامکم منکم قال ابن ابی ذئب فی معناه فامکم بکتاب ربکم وسنة نبیکم قال الطیبی رحمہ اللہ فالضمیر فی ”امکم“ لعیسیٰ ”ومنکم“ حال ای یؤمکم عیسیٰ حال کونہ من دینکم ویحتمل ان یکون معنی ”امامکم منکم“ کیف حالکم وانتم مکرمون عند اللہ تعالیٰ والحال ان عیسیٰ ینزل فیکم وامامکم منکم وعیسیٰ یقتدی بامامکم تکرمة لدينکم ﴿﴾

(مرقاۃ المفاتیح: ج ۱۰ ص ۲۳۲)

”تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا“ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا امام تمہارے ہی اہل دین میں سے ہوگا (کسی اور شریعت یا کتاب پر عامل نہیں ہوگا) اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قریش ہیں (تمہارا امام قریش میں سے ہوگا) اور اس امام کا نام مہدی ہوگا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمہارا امام تم ہی میں سے ایک فرد ہوگا نہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے امام ہوں گے کیونکہ وہ بمنزلہ خلیفہ کے ہوں گے چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ امت محمدیہ میں سے نہیں ہوں گے بلکہ ملت محمدیہ کی تقویت اور امت محمدیہ کی اعانت کے لیے تشریف لائیں گے۔

شرح السنہ میں ہے کہ معمر نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تم تو (مقتدی) ہو گے ہی، تمہارا امام بھی تم ہی میں سے ہوگا۔ اور ابن ابی ذئب نے ابن شہاب سے ”فامامکم منکم“ کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں تمہاری امامت کریں گے۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ”امکم“ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے گی اور ”منکم“ ترکیب میں حال واقع ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کے مطابق تمہاری امامت کریں گے (انجیل پر نہ خود عمل کریں گے اور نہ دوسروں کو عمل کرائیں گے۔)

اور یہ بھی احتمال ہے کہ ”امامکم منکم کا معنی یہ ہو کہ تم ایک معزز قوم ہو اور تمہاری عزت کا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے دینی اعزاز و اکرام کی بناء پر تمہارے امام کی اقتداء کریں گے۔“

حضرت مولانا سید بدر عالم مہاجر مدنیؒ اس حدیث کے تحت رقمطراز ہیں:

”حدیث مذکور میں ”وامامکم منکم“ کی شرح بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدیہ ہی پر عمل فرمائیں گے اس لحاظ سے گویا وہ ہم ہی میں سے ہوں گے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد امام مہدیؑ ہیں اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے زمانے میں نازل ہوں گے جب کہ ہمارا امام خود ہم ہی میں ایک کا شخص ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں امامت سے مراد امامت کبریٰ یعنی امیر و خلیفہ ہے۔“

اس مضمون کے ساتھ صحیح مسلم میں ”فیقول امیر ہم تعال صل لنا“ کا دوسرا مضمون بھی آیا ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا اور امام مصلیٰ پر جاچکا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نو دیکھ کر وہ امام پیچھے ہٹنے کا ارادہ کرے

ہے اور اس دعویٰ کے لئے کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں کہ وہ ”امام مہدی“ نہ ہوں گے بلکہ کوئی اور امام ہوگا تو اب اس امام کے امام مہدی ہونے کے انکار کے لئے کوئی معقول وجہ نہیں ہے بالخصوص جب کہ دوسری روایات میں اس کے امام مہدی ہونے کی تصریح موجود ہے۔ اسی کے ساتھ جب صحیح مسلم کی حدیثوں میں اس امام کی صفات وہی ہیں جو حضرت امام مہدی کی صفات ہیں تو پھر ان حدیثوں کو بھی امام مہدی کی آمد کا ثبوت تسلیم کر لینا چاہئے۔ اس کے علاوہ حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے جو اگرچہ بلحاظ اسناد ضعیف سہی لیکن صحیح و حسن حدیثوں کے ساتھ ملا کر وہ بھی امام مہدی کی آمد کی حجت کہا جاسکتا ہے۔“

(ترجمان السنن ج ۳ ص ۹۸) (۱)

۲۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

﴿قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم الدين﴾ قال

فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمه الله

هذه الامة ﴿ (رواه مسلم۔ ۳۹۰ مشکوٰۃ الصالح ص ۳۸۰)

”حضور ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قیام کرتی رہے گی (اور) غالب رہے گی، فرمایا کہ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا کہ آئیے! اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے نہیں! بلکہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں اس امت کی عند اللہ عزت و شرافت کی وجہ سے۔“

اس روایت میں اگرچہ امام مہدیؑ کے نام کی تصریح نہیں تاہم دیگر قوی شواہد و قرآن کی روشنی میں اس حدیث کا مصداق امام مہدی رضوان اللہ علیہ ہی قرار پاتے ہیں۔

۳۔ نیز صحیح مسلم ہی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت منقول ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْتَمِلُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَبْعُدَهُ
عَدُوًّا قَالَ قُلْتُ لِأَبِي نَضْرَةَ وَ أَبِي الْعَلَاءِ أَتَرِيَانِ أَنَّهُ عَمْرُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ فَقَالَا، لَا﴾ (رواه مسلم، ۷۳۱۵)

”میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو بغیر شمار کئے
لپ بھر بھر کر مال دے گا۔ (حدیث کے ایک راوی جریری کہتے
ہیں) کہ میں نے ابو نضرہ اور ابو العلاء سے پوچھا کہ کیا آپ کی
رائے میں وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیزؓ ہیں تو ان دونوں نے نفی میں
جواب دیا۔“

اس قسم کی احادیث مسلم شریف میں ۷۳۱۵ تا ۷۳۱۹ ملاحظہ فرمائیں۔

احادیث مذکورہ میں اگرچہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے نام کی صراحت نہیں ہے
لیکن محدثین کرام ان احادیث کا مصداق امام مہدی رضی اللہ عنہ ہی کو قرار دیتے ہیں نیز
حارث بن ابی اسامہ کی مسند میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت میں امام مہدی
رضی اللہ عنہ کے نام کی صراحت موجود ہے۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان نے اپنی
کتاب ”الاذاعہ“ کے آخر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی مسلم کی اس روایت
پر امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق احادیث کو ختم کر کے تحریر فرمایا ہے۔

﴿وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَهْدِيِّ وَ لَكِنْ لَا مَحْمِلَ لَهُ وَ لَا مِثَالَ
لَهُ مِنَ الْإِحَادِيثِ إِلَّا الْمَهْدِيُّ الْمُنْتَظَرُ كَمَا دَلَّتْ عَلَى
ذَلِكَ الْأَخْبَارِ الْمَتَّقِمَةُ وَالْأَنْبَارُ الْكَثِيرَةُ﴾

”اس حدیث میں اگرچہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں لیکن احادیث میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کے علاوہ اس کا کوئی جمل اور مثال موجود نہیں جیسا کہ اس پر گذشتہ احادیث اور بکثرت وارد شدہ آثار دلالت کرتے ہیں۔“

۴۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے جو کہ حکماً مرفوع ہے اس لئے کہ اپنی طرف سے ایسی بات کوئی صحابی نہیں کہہ سکتا تا وقتیکہ اس نے حضور ﷺ سے اس کو سنا نہ ہو۔ علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاویٰ جلد دوم میں اس پر کافی شافی بحث فرمائی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

﴿عن عبد اللہ بن مسعود قال ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا و نحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لاهل الاسلام و يجمع لهم اهل الاسلام قلت الروم تعنى قال نعم قال و يكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الاغلبة فيقتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفى هؤلاء و هؤلاء كل غير غالب و تفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الاغلبة فيقتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفى هؤلاء و هؤلاء كل غير غالب و تفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الاغلبة فيقتلون حتى يمسا فيفى هؤلاء و هؤلاء كل غير غالب و تفنى الشرطة فاذا كان يوم الرابع نهد اليهم بقية اهل الاسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتلون مقتلة اما قال لا يرى مثلها و اما قال لم ير مثلها

حتى ان الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى
 يخرميتا فيتعاد بنو الاب كانوا مائة فلا يجدونه بقى
 منهم الا الرجل الواحد فباى غنيمة يفرح او اى ميراث
 يقاسم فيناهم كذلك اذ سمعوا بباس هواكبر من
 ذلك فجاءهم الصريخ ان الدجال قد خلفهم فى
 ذرايبهم فيرفضون ما فى ايديهم و يقبلون فيبعثون
 عشر فوارس طليعة قال رسول الله ﷺ انى لا عرف
 اسماؤهم و اسماء آبائهم والوان خيولهم هم خير
 فوارس او من خير فوارس على ظهر الارض يومئذ ﴿

(رواه مسلم ۷۲۸۱، مشکوٰۃ المصابيح ص ۳۶۷)

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس
 وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ (ایسا وقت نہ آجائے کہ)
 میراث تقسیم نہیں ہوگی اور مال غنیمت سے خوشی نہیں ہوگی (کیونکہ
 جب کوئی وارث ہی نہیں رہے گا تو ترکہ کون بانٹے گا اور جب کوئی
 لڑائی سے زندہ ہی نہیں بچے گا تو مال غنیمت کی کیا خوشی ہوگی؟) پھر
 اپنے ہاتھ سے شام کی طرف سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اہل اسلام
 سے لڑنے کے لئے دشمن جمع ہوں گے۔ مسلمان بھی ان سے لڑنے
 کے لئے اکٹھے ہوں گے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا دشمنوں
 سے مراد رومی ہیں؟ فرمایا ہاں! اور اس موقع پر شدید لڑائی ہوگی
 چنانچہ مسلمان ایک جماعت کو لڑنے کے لئے بھیجیں گے جو یہ شرط
 رکھیں گے کہ یا تو مر جائیں گے یا پھر غالب ہو کر واپس آئیں
 گے، چنانچہ وہ جا کر اتنا لڑیں گے کہ رات ان کے درمیان حائل ہو
 جائے گی اور دونوں فوجیں ہارجیت کے فیصلے کے بغیر واپس

آجائیں گی اور مرنے کی نیت سے جانے والا اسلامی دستہ مکمل شہید ہو جائے گا اور تین دن تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔

چوتھے دن بقیہ تمام مسلمان حملہ کے ارادہ سے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس دن کافروں کو شکست دے دیں گے اور ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے نہ دیکھی گئی ہوگی (اور لاشوں کا اس قدر انبار لگ جائے گا کہ) ایک پرندہ ان پر سے اڑ کر گزرنا چاہے گا لیکن (شدت تعفن یا طول مسافت کی وجہ سے) اس میدان کو عبور کرنے سے پہلے گر کر مر جائے گا، اس کے بعد جب مردم شماری کی جائے گی تو اگر مثلاً کسی آدمی کے سو بیٹے تھے ان میں سے صرف ایک زندہ بچا ہوگا اور باقی سب شہید ہو چکے ہوں گے تو ایسی حالت میں کون سے مال غنیمت سے خوشی ہوگی یا کون سی وراثت تقسیم ہوگی۔ ابھی مسلمان اسی حالت میں ہوں گے کہ اس سے بڑی آفت کی خبر سنیں گے چنانچہ ایک شخص چیخ کر کہے گا کہ دجال ان کے پیچھے ان کے بچوں میں آگھسا ہے۔ مسلمان یہ خبر سنتے ہی اپنے پاس موجود تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور (تحقیق حال کے لئے) مقدمۃ الجیش کے طور پر دس سواریوں کا ایک دستہ بھیجیں گے جن کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں ان سواریوں اور ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں تک کو جانتا ہوں اور وہ اس وقت روئے زمین کے بہترین شہسواروں میں سے ہوں گے۔“

(فائدہ): اس حدیث میں اگرچہ بظاہر امام مہدی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہیں لیکن محدثین کرام نے اس کو انہی کے زمانے پر محمول کیا ہے کیونکہ یہ واقعہ انہی کے زمانے میں پیش آئے گا جیسا کہ آپ گذشتہ اوراق میں بالتفصیل پڑھ آئے ہیں۔ لہذا اس روایت سے بھی

ظہور مہدیؑ کا ثبوت ملتا ہے۔

۵۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قَبَةِ مِنْ أَدَمَ فَقَالَ أَعَدَدْتَ سِتَابِينَ يَدِي السَّاعَةَ مَوْتِي ثُمَّ فَتَحَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُوتَانًا يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقَعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتَفَاضَةَ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيُظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فَتَنَةُ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلْتَهُ ثُمَّ هَدَنَةُ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيُغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ الْفَاكُ (رواه البخاری، مشکوٰۃ ص ۴۶۶)

اس سے ملتی جلتی حدیث ابن ماجہ میں بھی ۴۰۴۲ پر موجود ہے۔

”حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس غزوہ تبوک میں آیا جب کہ آپ ﷺ چمڑے کے ایک خیمے میں تھے۔ (مجھے دیکھ کر) فرمایا کہ قیامت سے پہلے چھ چیزوں کو شمار لو۔ ۱۔ میرا اس دنیا سے انتقال۔ ۲۔ بیت المقدس کی فتح۔ ۳۔ عام موت جس طرح بکریوں میں وبائی مرض آجائے (اور وہ بکثرت مرنے لگیں)۔ ۴۔ مال کی اتنی بہتات کہ ایک آدمی کو سو دینار دیئے جائیں گے تو وہ اس پر بھی ناراض ہوگا۔ ۵۔ پھر ایسا فتنہ پھیلے گا کہ عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ ۶۔ پھر تمہارے اور رویوں کے درمیان صلح ہوگی، وہ دھوکہ بازی سے کام لے کر تمہارے پاس (اس کثرت سے فوجیں لے کر) آئیں گے کہ وہ اسی جھنڈوں کے نیچے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار سپاہی ہوں گے۔“

فائدہ: اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مولانا سید بدر عالم مہاجر مدنیؒ تحریر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قیامت سے قبل چھ علامات کا ذکر کیا گیا ہے، جن کی تعیین میں اگرچہ بہت کچھ اختلافات ہیں اور ان کے ابہام کی وجہ سے ہونے چاہئیں لیکن یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ حدیث مذکورہ کے بعض الفاظ حضرت امام مہدیؑ کے خروج کی علامات سے اتنے ملتے جلتے ہیں کہ اگر ان کو ادھر ہی اشارہ قرار دے دیا جائے تو ایک قریبی احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے اس حدیث کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بحث میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ لحاظ کئے بغیر کہ محقق ابن خلدون اور ان کے اذتاب اس کے معتقد ہیں یا نہیں۔

تنبیہ: یہ بات قابل تنبیہ ہے کہ علماء کے نزدیک مفہوم عدد معتبر نہیں ہے اس لئے مجھ کو اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت سے قبل اس کے ظہور کی چھ علامات ہیں یا کم و بیش۔ یہ وقت اور علامات کی حیثیت شمار کرنے سے مختلف ہو سکتی ہیں ان کا کسی حیثیت سے چھ ہونا بھی ممکن ہے اور کسی لحاظ سے وہ کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں ممکن ہے کہ وقتی لحاظ سے جن علامات کو آپ نے یہاں شمار کر لیا ہے ان کا عدد کسی خصوصیت پر مشتمل ہو۔ یہ بات صرف یہاں نہیں بلکہ دیگر حدیثوں کے موضوع میں بھی اگر آپ کے پیش نظر رہے تو بہت سی مشکلات کے لئے موجب حل ہو سکتا ہے جیسا کہ فضل اعمال کی حدیثوں میں اختلاف ملتا ہے اور اس کو بہت پیچیدگیوں میں ڈال دیا گیا ہے حالانکہ یہ اختلاف بھی صرف وقتی اور شخصی اختلاف کے لحاظ سے پیدا ہو جانا بہت قرین قیاس ہے۔ مگر کیا کہا جائے منطقی عادات نے ہماری ذہنی ساخت کو بدل دیا ہے۔

ع چون ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند (ترجمان السنن ج ۳ ص ۳۹۷)

نیز اس سے قبل آپ یہ بھی پڑھ آئے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں ہی یہ واقعہ پیش آئے گا لہذا یہ روایت بھی ظہور مہدیؑ کا اثبات کر رہی ہے۔

۶۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ سے مسلم شریف میں یہ روایت مروی ہے۔

يقال رسول الله ﷺ " لا تقوم الساعة حتى ينزل

الروم بالاعماق او بدابق فيخرج اليهم جيش من

المدينة من خيار اهل الارض يومئذ فاذا تصافوا قالت
 الروم خلوا بيننا وبين الذين سوا منا فقاتلهم فيقول
 المسلمون لا والله لا نخلى بينكم وبين اخواننا
 فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا و يقتل
 ثلثهم افضل الشهداء عند الله و يفتح الثلث لا يفتنون
 ابدا فيفتحون قسطنطينة فيبناهم يقتسمون الغنائم قد
 علقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان
 المسيح قد خلفكم في اهليكم فيخرجون و ذلك
 باطل فاذا جاؤا الشام خرج فيناهم يعدون للقتال
 يسوون الصفوف اذ اقيمت الصلوة فينزل عيسى ابن
 مريم فامهم فاذا راه عدو الله ذاب كما يذوب الماء
 في الملح فلو تركه لانداب حتى يهلك و لكن يقتله
 الله بيده فيريهم دمه في حربته ﴿﴾

(روہ مسلم ۷۲۷۸، مشکوٰۃ ص ۳۶۶)

”حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
 جب تک کہ رومی اعماق یا ابلق نامی جگہ پر پڑاؤ نہ کر لیں چنانچہ ان
 سے لڑنے کے لئے زمین والوں کے بہترین افراد پر مشتمل ایک
 لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا، (وہاں پہنچ کر) جب دونوں لشکر
 صف بندی کر لیں گے تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں
 کے درمیان سے ہٹ جاؤ جن کو ہم میں سے قیدی بنا لیا گیا ہے
 تاکہ ہم انہی سے لڑیں (کیونکہ انہوں نے مسلمان ہو کر ہمارے
 ساتھ غداری کی ہے)۔ مسلمان کہیں گے کہ اللہ کی قسم! ایسا نہیں ہو
 سکتا چنانچہ وہ ان سے لڑیں گے حتیٰ کہ ایک تہائی مسلمان شکست کھا

کر بھاگ کھڑے ہوں گے، ان کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے اور ایک تہائی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی اور یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوں گے۔

مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر کے اپنی تلواروں کو زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی مال غنیمت تقسیم کر ہی رہے ہوں گے کہ اچانک شیطان ان میں آ کر چینی گا کہ تمہارے پیچھے دجال تمہارے گھر والوں میں آگہسا (یہ خبر سنتے ہی) مسلمان روانہ ہو جائیں گے لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی تاہم مسلمان جب شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔

مسلمان اس سے لڑائی کی تیاری کر کے صفوں کو برابر کر رہے ہوں گے کہ نماز کھڑی ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور (آئندہ نمازوں میں) مسلمانوں کی امامت کریں گے۔ جب اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے چنانچہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کریں تب بھی وہ گھل کر ختم ہو جائے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے۔“

فائدہ:

اس حدیث میں دو باتیں غور طلب ہیں:

(۱) ”حیش من المدینۃ“ میں مدینہ سے کون سا شہر مراد ہے؟

(۲) ”فامہم“ سے کیا مراد ہے؟

پہلی بات کی وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قاریؒ تحریر فرماتے ہیں:

﴿جیش من المدينة قال ابن الملك قيل المراد بها حلب، والا عماق ودابق موضعان بقربه وقيل المراد بها دمشق وقال في الازهار واما ما قيل من ان المراد بها مدينة النبي ﷺ فضعيف لان المراد بالجيش الخارج الى الروم جيش المهدي بدليل آخر الحديث ولان المدينة المنورة تكون خرابا في ذلك الوقت﴾

(مرقاة الفاتح: ج ۱۰ ص ۱۰۶)

”مدینہ“ سے کیا مراد ہے؟ ابن ملک کہتے ہیں کہ اس میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے شہر حلب مراد ہے اور اعماق ودابق اس کے قریب دو جگہیں ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے دمشق مراد ہے اور کتاب الازہار میں ہے کہ اس سے مدینہ منورہ مراد لینے کا قول ضعیف ہے اس لیے کہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رومیوں کی طرف جانے والا لشکر امام مہدیؑ کا ہوگا (اور امام مہدیؑ اس وقت مدینہ منورہ میں نہیں ہوں گے) کیونکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ ویران ہوگا۔“

جبکہ دوسری بات کی وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قاریؒ رقمطراز ہیں:

﴿فامهم وفي رواية قدم المهدي معللا بان الصلوة انما اقيمت لك واشعارا بالمتابعة وانه غير متبوع استقلالاً بل هو مقرر و مؤيد ثم بعد ذلك يؤم بهم على الدوام وقوله فامهم فيه تغليب او تركب مجاز اي امر امامهم بالامامة ويكون الدجال حينئذ محاصرا للمسلمين﴾ (مرقاة الفاتح: ج ۱۰ ص ۱۰۸)

”اس روایت میں حضرت عیسیٰ کی امامت کا تذکرہ ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہوئے امام مہدیؑ کو نماز کے لیے آگے بڑھائیں گے کہ اقامت تمہارے لیے ہوئی ہے اور اپنی متابعت کا احساس دلائیں گے نیز یہ کہ امام مہدیؑ مستقل طور پر متبوع (امام) نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ ان کی تائید و تقویت فرما رہے ہیں پھر اس کے بعد مستقل طور پر حضرت عیسیٰ ہی نمازیں پڑھائیں گے لہذا حدیث کے اس لفظ ”فامہم“ میں تغلیباً یا ترکیب مجازی کے طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ امامت کریں گے یعنی امامت کا حکم دیں گے اور اس وقت دجال مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہوگا۔“

(۷) اسی طرح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے:

﴿قال رسول اللہ ﷺ يوشك الفرات ان يحسر عن كنز من ذهب فمن حضر فلایا خدمه شینا﴾

(متفق علیہ، بخاری، ۷۱۱۹، مسلم، ۷۲۷۴، مشکوٰۃ المصابیح، ص ۴۶۹)

”حضور ﷺ نے فرمایا کہ عنقریب دریائے فرات کا پانی خشک ہو کر اس سے سونے کا ایک خزانہ ظاہر ہوگا، تم میں سے جو اس موقع پر حاضر ہو، وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔“

فائدہ:

اس کی تفصیل باب پنجم میں گزر چکی ہے اور یہی روایت مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے کچھ اضافے کے ساتھ بھی مروی ہے۔

﴿قال رسول اللہ ﷺ لا تقوم الساعة حتی يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتل الناس عليه فيقتل من

كل مائة تسعة و تسعون ويقول كل رجل منهم لعلی
 اكون انا الذى انجو ﴿ (رواه مسلم ۷۲۷۲، مشکوٰۃ ص ۳۶۹)
 ”حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی تا وقتیکہ دریائے
 فرات کا پانی خشک ہو کر اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو
 جائے۔ اس کے حصول کے لیے لوگ آپس میں اس قدر لڑیں گے
 کہ ہر سو میں سے ننانوے افراد مارے جائیں گے اور اس جنگ
 میں ہر آدمی یہی سمجھے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔“

(۸) اسی طرح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ مرفوع روایت بھی
 منقول ہے:

﴿عن ابى هريرة ان النبى ﷺ قال سمعتم بمدينة
 جانب منها فى البر وجانب منها فى البحر؟ قالوا نعم يا
 رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون
 الفامن بنى اسحق فاذا جاؤ هانزلوا فلم يقاتلوا بسلاح
 ولم يرموا بسهم قالوا لا اله الا الله والله اكبر فيسقط
 احد جانبيها قال لا اعلمه الا قال الذى فى البحر ثم
 يقولون الثانية لا اله الا الله والله اكبر فيسقط جانبها
 الاخر ثم يقولون الثالثة لا اله الا الله والله اكبر فيفرج
 لهم فيدخلونها فيغنمون فيبيناهم يقتسمون المغانم اذا
 جاءهم الصريخ فقال ان الدجال قد خرج و يتركون
 كل شى و يرجعون ﴿ (رواه مسلم ۷۳۳۳، مشکوٰۃ الصالح: ص ۳۶۷)

”حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) حضور ﷺ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم نے کسی ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہو؟ صحابہ

نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے ستر ہزار افراد اس شہر کے لوگوں سے جہاد نہ کر لیں چنانچہ مجاہدین جب وہاں پڑاؤ کریں گے تو نہ اسلحہ سے لڑیں گے اور نہ تیر پھینکنے کی نوبت آئے گی، صرف ایک مرتبہ ”لا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ کہنے سے شہر پناہ کا ایک حصہ گر جائے گا۔“

ثور بن یزید کہتے ہیں کہ میں تو یہی جانتا ہوں کہ میرے شیخ نے یہ کہا تھا کہ اس سے مراد سمندر کی جانب والی دیوار ہے۔ پھر مسلمان دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو شہر پناہ کا دوسرا حصہ بھی گر جائے گا اور تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرنے سے اتنی کشادگی ہو جائے گی کہ سارے مسلمان شہر میں داخل ہو (کر اس پر قابض ہو) جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کر کے ابھی اسے تقسیم کر ہی رہے ہوں گے کہ ایک آدمی چیخ کر کہے گا کہ وصال نکل آیا۔ مسلمان یہ خبر سن کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلے جائیں گے۔“

فائدہ:

اس حدیث میں اولاً تو یہ بات ملحوظ رہے کہ یہاں بنو اسحاق کے ستر ہزار افراد کا ذکر ہے اور بعض روایات میں بنو اسماعیل کے ستر ہزار افراد کا ذکر ہے اور بقول علامہ ابن حجر ہیتمی مکی کے بنو اسماعیل ہی راجح ہے۔ (ملاحظہ ہو القول المختصر ص ۳۸)

ثانیاً یہ کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ قسطنطنیہ کا ہے جو حضرت امام مہدیؑ کے زمانے میں فتح ہوگا لہذا اس روایت سے بھی ظہور مہدیؑ کا ثبوت ملتا ہے۔ مولانا بدر عالمؒ اس موقع پر فرماتے ہیں:

”دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ قسطنطنیہ کا ہے۔“

یہاں نعرہٴ تکبیر سے شہر کے فتح ہو جانے پر تعجب کرنے والے مسلمان ذرا غور و فکر کے ساتھ ایک بار اپنی گذشتہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی فتوحات کی تاریخ اس قسم کے عجائبات سے معمور ہے اور سچ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی غیبی امدادیں ان کے ساتھ نہ ہوتیں تو اس زمانے میں جبکہ نہ دخانی جہاز تھے، نہ فضائی طیارے اور نہ موٹر۔ پھر ریلج سکوں میں اسلام کو پھیلا دینا یہ کیسے ممکن تھا آج جب کہ مادی طاقتوں نے سیر و سیاحت کا مسئلہ بالکل آسان کر دیا ہے جس حصہ زمین میں ہم پہنچتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ علاء بن حضرمیؒ صحابی اور ابو مسلم خولانیؒ کا مع اپنی فوج کے سمندر کو خشکی کی طرح عبور کر جانا تاریخ کا واقعہ ہے۔ خالد بن ولیدؓ کے سامنے مقام حیرہ میں زہر کا پیالہ پیش ہونا اور ان کا لم اللہ کہہ کر نوش کر لینا اور اس کا نقصان نہ کرنا بھی تاریخ کی ایک حقیقت ہے، سفینہ (آپ ﷺ کے غلام کا نام ہے) کا روم میں ایک جگہ گم ہو جانا اور ایک شیر کا گردن جھکا کر ان کو لشکر تک پہنچانا اور حضرت عمرؓ کا مدینہ میں منبر پر اپنے جمل ساریہ کو آواز دینا اور مقام نہاوند میں ان کا سن لینا اور حضرت عمرؓ کے خط سے دریائے نیل کا جاری ہونا یہ تمام تاریخ کے مستند حقائق ہیں۔“

”ان واقعات کے سوا جو بسلسلہٴ سند ثابت ہیں ہندوستان کے بہت سے عجیب واقعات ایسے بھی ثابت ہیں جن میں سے کئی ایک کی شہادت تو انگریزوں کی زبان سے ثابت ہے۔“

(ترجمان الن: ج ۳ ص ۳۹۴)

- (۹) خانہ کعبہ پر حملہ کیلئے سفیانی کی طرف سے بھیجے جانے والے لشکر اور اس کے زیر زمین دھنسنے کا واقعہ بخاری شریف میں بھی حدیث نمبر ۲۱۱۸ پر موجود ہے، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اس واقعے سے بھی اشارہٴ امام مہدیؑ کا ثبوت بخاری میں ہی مل جاتا ہے۔

﴿روایات صحابہ در بارہ مہدی رضوان اللہ علیہ﴾

امام مہدیؑ سے متعلق صحیحین کی روایات آپ ملاحظہ فرما چکے اب ان صحابہؓ و صحابیاتؓ کی روایات نقل کی جاتی ہیں جو امام مہدیؑ سے متعلق روایات کے ناقل ہیں اور ان کے اسماء گرامی آپ باب اول میں پڑھ آئے ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں ناموں کی اسی ترتیب سے باضافہ عنوانات روایات مع ترجمہ کے نقل کرنا مقصود ہے، تشریحات گذشتہ ابواب میں گزر چکی ہیں۔ امید ہے کہ اس سے قارئین فائدہ جدیدہ حاصل کریں گے اور اکتاہٹ محسوس نہ کریں گے۔

(۱) ﴿حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

خزانہ بیت اللہ کو تقسیم کرنے والے:

﴿عن عمر بن الخطاب انه ولج البيت وقال والله ما ادري ادع خزائن البيت وما فيه من السلاح والاموال او قسمه في سبيل الله؟ فقال له علي بن ابي طالب امض يا امير المؤمنين فلست بصاحبه انما صاحبه مناشاب من قريش يقسمه في سبيل الله في آخر الزمان﴾

(کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۵۲)

”ایک مرتبہ حضرت عمرؓ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم! مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بیت اللہ کے خزانے، اس کے اسلحے اور مال و دولت کو چھوڑے رکھوں یا راہ خدا میں تقسیم کر دوں؟ تو حضرت علیؓ نے فرمایا اے امیر المؤمنین! اس کو چھوڑ دیجئے کہ آپ اس کو تقسیم کرنے والے نہیں بلکہ اس کو تقسیم کرنے والا قریش میں سے ہم میں کا ایک نوجوان آ خر زمانے میں ہوگا جو اس کو تقسیم کرے گا۔“

محدثین کرام نے اس حدیث کا مصداق امام مہدیؑ کو قرار دیا ہے۔ نیز یہ کہ اگر امام مہدیؑ کا ظہور برحق نہ ہوتا تو حضرت عمرؓ فوراً حضرت علیؑ کی اس بات کا انکار کر دیتے۔ لیکن ان کا انکار منقول نہیں، معلوم ہوا کہ امام مہدیؑ کا ظہور برحق ہے۔

(۲) ﴿حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مہدیؑ، اولاد عباسؑ میں سے؟

﴿عن عثمان بن عفان قال سمعت النبی ﷺ یقول

المہدی من ولد العباس عمی﴾ (کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۹۱)

”حضرت عثمان غنیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی، میرے چچا عباس کی اولاد میں سے ہوں گے۔“

اس حدیث پر بظاہر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ امام مہدیؑ تو حضرت فاطمہؑ کی اولاد میں سے ہوں گے اور اس روایت میں حضرت عباسؑ کی اولاد میں سے ہونے کا تذکرہ ہے؟ اس کا جواب اسی رسالے کے باب دوم میں گزر چکا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں:

(۳) ﴿حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

خلافت کے لیے امام مہدیؑ کو تیار کرنا:

﴿عن علی قال قال رسول اللہ ﷺ المہدی منکم اهل

البیت يصلحه اللہ فی لیلۃ﴾ (سنن ابی یعلیٰ الموصلی: ج ۱ ص ۲۵۹)

”حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مہدی تم (میرے) اہل بیت میں سے ہوگا جس کی اصلاح اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں کر دیں گے۔“

(۴) ﴿حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

ظہور مہدیؑ سے قبل کے واقعات:

﴿روى من حديث معاوية بن ابي سفيان في حديث فيه طول عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ستفتح بعدى جزيرة تسمى بالاندلس فتغلب عليهم اهل الكفر فياخذون من اموالهم واكثر بلادهم ويسبون نساءهم واولادهم ويهتكون الاستار ويخربون الديار ويرجع اكثر البلد فيافى وقفارا وتنجلي اكثر الناس عن ديارهم و اموالهم فياخذون اكثر الجزيرة ولا يبقى الا اقلها ويكون في المغرب الهرج والخوف ويستولى عليهم الجوع والغلاء وتكثر الفتنة وياكل الناس بعضهم بعضا فعند ذلك يخرج رجل من المغرب الاقصى من اهل فاطمة بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو المهدي القائم في آخر الزمان وهو اول اشراط الساعة﴾ (التذكرة للقرطبي ص ۷۰۳)

”حضرت امیر معاویہؓ کی ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میرے بعد اندلس نامی جزیرہ فتح ہوگا اور اس پر کفار غالب آکر ان کے اموال اور اکثر شہروں پر قبضہ کر لیں گے، ان کی عورتوں اور اولاد کو قید کر لیں گے۔ ان کی عصمت درزی کریں گے، شہروں کو اس طرح ویران کر دیں گے کہ اکثر شہر جنگلوں کی مانند ہو جائیں گے، اکثر لوگ اپنے شہر اور مال و دولت کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تھوڑے سے حصہ کے علاوہ پورے جزیرے پر ان کا قبضہ ہو جائے گا اور مغرب میں قتل اور خوف و ہراس پھیل

جائے گا۔ لوگوں پر بھوک اور مہنگائی غالب آ جائے گی، فتنے زیادہ ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے درپے ہوں گے، اس وقت مغرب اقصیٰ سے حضرت فاطمہؑ کی اولاد میں سے مہدی نامی شخص کا ظہور ہوگا جو آخری زمانے میں ہوگا اور اس کا آنا علامات قیامت میں سے پہلے علامت ہے۔“

(۵) ﴿حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

جہادِ مہدیؑ سنت کی روشنی میں ہوگا:

﴿عن عائشة عن النبي ﷺ قال هو رجل من عترتي

فيقاتل علي سني كما قاتلت انا على الوحي﴾

(کتاب الفتن: ص ۲۶۳)

”حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مہدیؑ میری اولاد میں سے ایک آدمی ہوگا جو میری سنت کی روشنی میں جہاد کرے گا جیسے میں نے وحی کی روشنی میں جہاد کیا ہے۔“

(۶) ﴿حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

مقامِ بیداء میں لشکر کا دھنس جانا:

﴿عن حفصة رضي الله عنها انها سمعت النبي ﷺ

يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى اذا كانوا

بيداء من الارض يخسف باوسطهم وينادي اولهم

آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى الا الشريد الذي

بخبر عنهم﴾ (مسلم شریف ۷۲۳)

”حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کو میں نے یہ فرماتے

ہوئے سنا کہ ایک لشکر اس بیت اللہ کا ضرور قصد کرے گا یہاں تک کہ جب وہ بیداء نامی جگہ پہنچے گا تو درمیان والا حصہ زمین میں دھنس جائے گا، یہ دیکھ کر لشکر کے اگلے لوگ پچھلوں کو آواز دیں گے لیکن ان کو بھی دھنسا دیا جائے گا اور سوائے مخبر کے کوئی بھی نہ بچے گا۔“ (بعض روایات میں دو آدمیوں کے بچنے کا تذکرہ ہے جن کا نام ویر اور ویر ہوگا۔“ (کتاب الفتن: ص ۲۲۸)

(۷) ﴿حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

نیتوں پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا:

﴿عن صفیة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ ﷺ لا ینتھی الناس عن غزوہنا البیت حتی یغزو جیش حتی اذا کانوا بالبیداء او بیداء من الارض خسف باولہم و آخرہم ولم ینج اوسطہم قلت یا رسول اللہ! فمن کرہ منہم؟ قال یبعثہم اللہ علی مافی انفسہم﴾ (رواہ احمد و ابوداؤد)

”ام المؤمنین حضرت صفیہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بیت اللہ پر لوگ ہمیشہ لشکر کشی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ کی نیت سے روانہ ہو کر جب مقام بیداء میں پہنچے گا تو سارا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ اور کوئی بھی نہ بچے گا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر اس لشکر میں بعض لوگوں کو زبردستی شامل کر لیا گیا ہو (تو ان کا کیا حکم ہے؟) فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیتوں پر اٹھائیں گے۔“

(۸) ﴿حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

ایک مشرقی لشکر کا حملہ:

﴿عن ام حبیبة رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ ﷺ یقول ینخرج ناس من قبل المشرق یریدون رجلا عند البیت حتی اذا كانوا ببیداء من الارض ینخسف بهم﴾ (کتاب البرہان: ج ۲ ص ۶۳۲)

”حضرت ام حبیبہ قہر ماتی ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مشرق سے کچھ لوگ بیت اللہ میں موجود ایک آدمی (مہدیؑ) کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ مقام بیداء میں پہنچیں گے تو زمین میں دھنسا دیئے جائیں گے۔“

(۹) ﴿حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

امام مہدیؑ کی اجمالی سوانح حیات:

﴿عن ام سلمة زوج النبی ﷺ عن النبی ﷺ قال یکون اختلاف عند موت خلیفة فیخرج رجل من اهل المدينة ھاربا الی مکه فیاتیہ ناس من اهل مکه فیخرجونہ وھو کارہ فیبا یعونہ بین الرکن والمقام ویبعث الیہ بعث من الشام فیخسف بہم بالبیداء بین مکه والمدينة فاذا رأى الناس ذلک اتاہ ابدال الشام وعصائب اهل العراق فیبا یعونہ ثم ینشأ رجل من قریش اخوالہ کلب فیبعث الیہم بعثا فیظہرون علیہم وذلک بعث کلب والخیبة لمن لم یشہد غنیمۃ کلب فیقسم المال ویعمل فی الناس

بسنة نبيهم ﷺ ويلقى الاسلام بجرانه الى الارض
يلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه
المسلمون. اخرجہ ابن ابی شیبہ و احمد و ابو داؤد و ابو
یعلی و الطبرانی ﴿الحادی للفتاوی: ج ۲ ص ۱۷۱، ابو داؤد: ۴۲۸۶﴾

”حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا
عقریب ایک خلیفہ کی موت کے وقت نئے خلیفہ کے انتخاب میں
لوگوں کا اختلاف ہوگا، مدینہ والوں میں سے ایک آدمی بھاگ کر
مکہ آجائے گا، کچھ اہل مکہ ان کے پاس آکر زبردستی ان سے حجر
اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے پھر ان کے
مقابلے کے لیے شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا جو مکہ اور مدینہ کے
مابین مقام بیداء میں دھنس جائے گا، لوگ جب اس کرامت کو
دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور اہل عراق کے عصائب ان کے
پاس آکر ان سے بیعت کریں گے۔“

پھر قریش کا ایک آدمی جس کے نہیال والے بنو کلب ہوں گے، ان
سے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا تو یہ لوگ اس پر غالب آجائیں
گے، اس کو ”لشکر کلب“ کہتے ہیں اور وہ شخص بڑا محروم ہے جو بنو کلب
سے حاصل شدہ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر موجود نہ ہو۔ پس امام
مہدیؑ مال غنیمت تقسیم کریں گے اور لوگوں کے معاملات میں سنت
نبوی کے پیرو ہوں گے، ان کے زمانے میں اسلام اپنی گردن زمین پر
ڈال دے گا (اسلام کو استحکام نصیب ہوگا) وہ سات سال تک اسی حال
میں رہیں گے پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان ان کی نماز
جتازہ کی ادا کیگی (کر کے ان کی تدفین) کریں گے۔“

(۱۰) ﴿حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مہدیؑ کی حکومت:

﴿عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطى اسمه اسمي. رواه احمد و ابو داؤد و الترمذی و قال هذا حديث حسن صحيح﴾ (ترمذی: ج ۲ ص ۳۶، الحاوی للفتاویٰ: ج ۲ ص ۷۰)

”حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی، جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، سرزمین عرب کا مالک نہ ہو جائے۔“

(۱۱) ﴿حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت﴾

امام مہدیؑ کے اعوان و انصار:

﴿روى ابن مردويه عن ابن عباس ضي الله عنهما مرفوعا قال اصحاب الكهف اعوان المهدي﴾ (الاشاء: ص ۳۳۳)

”ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ اصحاب کہف امام مہدیؑ کے اعوان و مددگار ہوں گے۔“

(۱۲) ﴿حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مہدیؑ کا حلیہ:

﴿عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله ﷺ المهدي مني اجلى الجبهة اقلني الانف يملأ الارض﴾

قسطا وعدلا کما ملنت ظلما وجورا ویملک سبع سنین ﴿﴾ (ابوداؤد: ج ۲ ص ۲۳۰، واخرجه الحاکم ایضاً)

”حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مہدی مجھ سے (میری اولاد میں سے) ہوں گے، خوبصورت کشادہ پیشانی اور لمبی ستواں ناک والے ہوں گے زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی اور سات سال حکومت کریں گے۔“

(۱۳) ﴿﴾ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ﴿﴾

دریائے فرات سے سونے کے ستون کا نکلتا:

﴿﴾ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب فمن حضر فلا یاخذ منه شیئا ﴿﴾ متفق علیہ۔ (مشکوٰۃ المصابیح: ص ۳۶۹)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا عنقریب دریائے فرات کا پانی خشک ہو کر اس میں سے سونے کا ایک خزانہ ظاہر ہوگا تو (تم میں سے) جو اس موقع پر حاضر ہو، وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔“ (کتاب الفتن: ص ۲۳۳ پر کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہی روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی موجود ہے۔)

(۱۴) ﴿﴾ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ﴿﴾

امام مہدیؑ کی بیعت کرنے کی تاکید:

﴿﴾ عن ثوبان قال قال رسول اللہ ﷺ تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتالا شديدا لم

یقاتله قوم مثله فاذا رايتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج

فانه خليفة الله المهدى ﴿(الاشارة: ص ۲۳۰)﴾

”حضرت ثوبانؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا (قیامت کے قریب) مشرق کے رخ سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے اور وہ تم سے ایسی سخت جنگ کریں گے کہ اس جیسی جنگ کسی قوم کی قوم نے نہ لڑی ہوگی۔ پس جب تم اس کو دیکھ لو تو (اس کے قائد سے) بیعت کر لو اگرچہ تمہیں (بیعت کے لیے) برف پر چل کر آنا پڑے کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔“

(۱۵) ﴿حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

قیامِ خلافتِ مہدیؑ کے معاونین:

﴿عن عبداللہ بن الحارث بن جزء الزبیدی قال قال رسول

اللہ ﷺ ینخرج ناس من المشرق فیوطنون للمہدی یعنی

سلطانہ. ﴿اخرجه ابن ماجہ والطبرانی (ابن ماجہ: ۴۰۸۸)﴾

”حضرت عبداللہ بن حارثؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا

مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو امام مہدیؑ کے لیے (مسئلہ)

خلافت کو آسان کر دیں گے۔“

(۱۶) ﴿حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

سردارانِ اہل جنت:

﴿عن انس قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول نحن ولد

عبدالطلب سادة اهل الجنة انا وحمزة وعلی وجعفر

والحسن والحسين والمہدی. ﴿اخرجه ابن ماجہ وابو

نعیم (ابن ماجہ: ۳۰۸۷)

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عبدالمطلب کی اولاد میں ہم (سات لوگ) اہل جنت کے سردار ہوں گے، میں خود (حضور ﷺ) حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی، رضی اللہ عنہم۔“

(۱۷) ﴿حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مہدیؑ کی داد و دہش:

﴿عن جابر قال قال رسول الله ﷺ يكون في آخر امتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا﴾ اخرجہ احمد و مسلم (مسلم شریف: ۷۳۱۵)

”حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو لپ بھر بھر کر بغیر شمار کیے مال و دولت سے نوازے گا۔“

فائدہ:

علامہ سیوطیؒ نے اس روایت کو مرفوعاً نقل کیا ہے جبکہ مصنف عبدالرزاق ج ۱۱ ص ۳۷۲ پر حضرت جابرؓ کی اسی روایت کو موقوفاً نقل کیا گیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ روایت مرفوع ہی ہے جیسا کہ صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے۔

(۱۸) ﴿حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

خزانہ بیت المقدس اور امام مہدیؑ:

﴿قال حذيفة رضي الله عنه فسمعت رسول الله ﷺ

يقول ليستخرجن المهدي ذلك حتى يردده الى بيت المقدس ﴿(الاشاء: ص ۲۲۳)

”حضرت حذیفہؓ (خزانہ بیت المقدس کی ایک طویل روایت ذکر کرتے ہوئے) فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”مہدی“ اس خزانے کو ضرور نکلاؤں گے تا آنکہ اسے بیت المقدس لوٹا دیں گے۔“

(۱۹) ﴿حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام الناس المہدی:

﴿عن ابی امامة قال قال رسول الله ﷺ سيكون بينكم وبين الروم اربع هدن، يوم الرابع على يد رجل من اهل هرقل يدوم سبع سنين فقال له رجل يا رسول الله! من امام الناس يومئذ؟ قال المهدي من ولدى ابن اربعين سنة كان وجهه كوكب دري في خده الايمن خال اسود عليه عباء تان قطوانيتان كانه من رجال بنى اسرائيل يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك﴾ (کتاب البرهان: ج ۲ ص ۵۸۳)

”حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا عنقریب تمہارے اور رومیوں کے درمیان چار مرتبہ صلح ہوگی، چوتھی مرتبہ جو صلح ہوگی وہ ہرقل کے خاندان والوں میں سے ایک آدمی کے ساتھ ہوگی جو سات سال تک رہے گی، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان دنوں لوگوں کا امام (خلیفہ) کون ہوگا؟ فرمایا میری اولاد میں سے مہدی نامی ایک شخص (لوگوں کا خلیفہ) ہوگا جس کی عمر ۴۰ سال ہوگی،

چمکدار ستارہ کی طرح روشن چہرہ ہوگا، دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا، دو سفید عبائیں زیب تن کیے ہوں گے (اور جسم میں) بنی اسرائیل کے ایک آدمی معلوم ہوں گے، زمین کے خزانوں کو نکال لیں گے اور شرک کے (اڈوں اور) شہروں کو فتح کر لیں گے۔“

(۲۰) ﴿حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت﴾

منیٰ میں خون ریزی:

﴿عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال یحج الناس معا ویعرفون معا علی غیر امام فیینما ہم نزول بمنی اذا اخلہم کالکلب فثارت القبائل بعضهم الی بعض فاقتلوا حتی تسیل العقبۃ دماً فیفز عون الی خیرہم فیاتونہ وهو ملصق وجہہ الی الکعبۃ یشکی کانی انظر الی دموعہ فیقولون ہلم فلنبايعک فیقول ویحکم کم من عہد نقضتموہ و کم من دم قد سفکتموہ فیبايع کرہا فان ادر کتموہ فبايعوہ فانہ المہدی فی الارض و المہدی فی السماء﴾ (کتاب التمن: ص ۲۳۸)

”حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ (قیامت کے قریب ایک مرتبہ) لوگ حج کے لیے (مکہ مکرمہ) آئیں گے اور میدان عرفات میں جمع ہوں گے لیکن ان کا کوئی امام نہیں ہوگا پھر جب وہ (اگلے دن) منیٰ میں پڑاؤ کریں گے تو (اچانک دشمنی کی ایسی آگ بھڑکے گی کہ) قبائل ایک دوسرے پر کتوں کی طرح حملہ کر دیں گے اور خوب لڑیں گے حتیٰ کہ جمرہ عقبہ خون میں بہہ جائے گا (بھر جائے گا) اس وقت لوگ گھبرا کر کسی بہترین آدمی کو تلاش کریں گے (تاکہ اس کو امام بنائیں اور یہ فتنہ دور ہو) چنانچہ وہ ان کو اس حال میں جا لیں گے

کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ اپنے چہرے کو چمٹا کر رو رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں گویا میں ان کے آنسوؤں کو ابھی دیکھ رہا ہوں، لوگ ان سے کہیں گے کہ آئیے! ہم آپ کی بیعت کریں، وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس! کس قدر وعدوں کو توڑ کر اور کس قدر خوزیزی کر کے تم میرے پاس آئے ہو؟ اور مجبور ہو کر لوگوں سے بیعت لیں گے، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان سے بیعت کر لینا کیونکہ وہ زمین و آسمان میں مہدی (ہدایت یافتہ) ہیں۔“

(۲۱) ﴿حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی روایت﴾

نفس زکیہ کا قتل:

﴿عن عمار بن یاسر قال اذا قتل النفس الزکیة واخوه یقتل بمکة ضیعة نادى مناد من السماء ان امیرکم فلان وذلك المهدی الذی یملا الارض خصبا وعدلا﴾
 اخروجه نعیم بن حماد (الحادی: ج ۲ ص ۹۱، کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۲۱)
 ”حضرت عمار بن یاسرؓ فرماتے ہیں کہ جب نفس زکیہ اور ان کا بھائی مکہ مکرمہ میں ناجت شہید کر دیئے جائیں گے تو آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ اے لوگو! تمہارا امیر فلاں آدمی ہے جس کا نام مہدی ہے وہ زمین کو شادابی اور عدل سے بھر دے گا۔“

(۲۲) ﴿حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

پوری دنیا کے حکمران:

﴿عن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ ملک الارض اربعة مؤمنان وکافران، فالمؤمنان ذوالقرنین وسلیمان،

والکافران نمرود و بخت نصر و سيملكها خامس من اهل بيتي ﴿﴾ اخرجه ابن الجوزي في تاريخه. (الحاوي: ج ۲ ص ۹۷)

”حضرت عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے چار آدمی گزرے ہیں جن میں سے دو مومن تھے اور دو کافر۔ مومن تو ذوالقرنین اور حضرت سلیمانؑ ہیں اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں، عنقریب ایک پانچواں شخص میری اولاد میں سے اس کا مالک ہو جائے گا۔“ (جس کا نام مہدی ہوگا)

فائدہ نمبر ۱:

علامہ سیوطیؒ نے اپنی کتاب الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۹۷ پر یہ روایت ابن جوزی کی تاریخ کے حوالے سے حضرت عباسؓ سے روایت کی ہے جبکہ یہی روایت شیخ علی متقیؒ نے کتاب البرہان ج ۲ ص ۵۵۹ پر بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فائدہ نمبر ۲:

نمرود۔ اصل میں تو یہ لفظ نمرود ہی ہے۔ لیکن اردو میں اس کو فقط دال کے ساتھ نمرود بولا جاتا ہے۔ جبکہ عربی میں اس کا استعمال دونوں طرح سے ہوتا ہے البتہ نمرود (ذال کے ساتھ) زیادہ فصیح ہے۔

(۲۳) ﴿﴾ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ﴿﴾

فرشتے کی پکار:

﴿﴾ عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ يخرج المهدي وعلي راسه ملك ينادي ان هذا المهدي فاتبعوه ﴿﴾ اخرجه ابو نعيم والخطيب في تلخيص

المتشابه. (الحادی: ج ۲ ص ۷۳، کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۱۲)
 ”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا امام
 مہدیؑ اس حال میں ظہور کریں گے کہ ان کے سر پر ایک فرشتہ ہوگا جو
 یہ نداء کرتا ہوگا کہ (اے لوگو!) یہ مہدی ہیں اس لیے ان کی اتباع کرو۔“

(۲۴) ﴿ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت ﴾

امام مہدیؑ کی صورت و سیرت:

﴿ عن عبدالرحمن بن عوف قال قال رسول الله ﷺ
 ليعثن الله تعالى من عترتي رجلا افرق الشايا اجلى
 الجبهة يملأ الارض عدلا ويفيض المال فيضا ﴾ اخرجه
 ابو نعيم (الحادی: ج ۲ ص ۷۶، کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۲۶)
 ”حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے
 فرمایا اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک آدمی کو ضرور بھیجیں
 گے جس کے سامنے کے دونوں دانت انتہائی کشادہ اور پیشانی
 روشن ہوگی، وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا اور لوگوں کو خوب مال
 دے گا۔ (پانی کی طرح بہائے گا۔)“

(۲۵) ﴿ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ﴾

علامات ظہور مہدیؑ:

﴿ عن محمد بن صامت قال قلت لابی عبد الله الحسين بن
 علی رضی اللہ عنہما اما من علامات بین یدی هذا الامر یعنی
 ظہور المہدی؟ فقال بلی، قلت وما ہی؟ قال ہلاک بنی
 العباس و خروج السفیانی و الخسف بالیداء قلت جعلت

فداک اخاف ان يطول هذا الامر قال انما هو كنظام الخرز

يتبع بعضه بعضاً ﴿ (کتاب البرہان: ج ۲ ص ۶۵۲)

”محمد بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسینؑ سے پوچھا کیا اس امر عظیم یعنی ظہور مہدی سے قبل کچھ علامات بھی رونما ہوں گی؟ فرمایا ہاں! کیوں نہیں، میں نے پوچھا کہ وہ کیا علامات ہیں؟ فرمایا بنو عباس کی ہلاکت، سفیانی کا خروج اور مقام بیداء میں ایک لشکر کا زمین میں دھنس جانا، میں نے کہا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ یہ معاملہ طویل عرصے کے بعد وقوع پذیر ہوگا۔ فرمایا کہ یہ موتی کی لڑی کی طرح ہوگا کہ ایک کے پیچھے دوسرا آجاتا ہے۔ (لڑی ٹوٹنے کے بعد جب ایک دانہ گرتا ہے تو دوسرا بھی فوراً گر جاتا ہے اسی طرح یہ واقعات بھی یکے بعد دیگرے پیش آجائیں گے۔“

(۲۶) ﴿ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت ﴾

فتنوں کی آگ:

﴿ عن طلحة بن عبيدالله عن النبي ﷺ قال ستكون

فتنة لا يهدأ منها جانب الا جاش منها جانب حتى ينادى

مناد من السماء ان اميركم فلان. ﴿ اخبرجه الطبراني

(الحاوي: ج ۲ ص ۷۳، کتاب البرہان: ج ۲ ص ۵۱۰)

”حضرت طلحہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا عنقریب ایک

ایسا فتنہ بھڑکے گا کہ ایک جانب سے ختم نہ ہونے پائے گا کہ دوسری

جانب بھڑک اٹھے گا اور یہ فتنہ برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ

آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ تمہارا امیر فلاں آدمی ہے۔“

﴿۲۷﴾ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ﴿

ظہور مہدیؑ کی ایک علامت:

﴿عن عمرو بن العاص قال علامة خروج المہدی اذا

خسف جيش في البداء فهو علامة خروج المہدی﴾

اخرجه نعيم (الحادی ج ۲ ص ۸۱، کتاب البرہان ج ۲۰ ص ۶۶۷)

”حضرت عمرو بن العاص نے خروج مہدیؑ کی علامت مقام بیداء

میں ایک لشکر کا زمین میں دھنس جانا بیان کی ہے۔“

﴿۲۸﴾ حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ﴿

خراسان سے سیاہ جھنڈوں کا آنا:

﴿قال عبدالرحمن الجرشى سمعت عمرو بن مرة

الجملى صاحب رسول الله ﷺ يقول لتخرجن من

خراسان راية سوداء حتى تربط خيولها بهذا

الزيتون الذى بين بيت لہيا وحرستا، قلت ما بين هاتين

زيتونة قال سينصب بينهما زيتون حتى ينزلها اهل

تلك الراية فتربط خيولها بها.﴾ (کتاب الفتن ص ۲۱۵)

”عبدالرحمن الجرشى کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت عمرو

بن مرہ الجملىؑ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈا

ضرور نکلے گا یہاں تک کہ (اس جھنڈے کے ماتحت لشکر کے لوگ)

بیت لہیا اور حرستا کے درمیان زیتون کے درخت پر اپنے گھوڑوں کو

باندھیں گے، ہم نے پوچھا کہ کیا ان دونوں کے درمیان زیتون کا

کوئی درخت ہے؟ فرمایا کہ اگر نہیں ہے تو عنقریب لگ جائے گا

تا آنکہ کہ وہ لوگ یہاں آ کر اپنے گھوڑے باندھ لیں۔“

(۲۹) ﴿حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

امام مہدیؑ کا نام:

﴿عن ابی الطفیل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ

قال المہدی اسمہ اسمی واسم ایہ اسم ابی﴾

(کتاب الفتن: ص ۲۶۰)

”حضرت ابوالطفیلؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مہدی کا نام میرے نام پر اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔“

(۳۰) ﴿حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

یکے بعد دیگرے فتنوں کا ظہور:

﴿عن عوف بن مالک ان النبی ﷺ قال تجئ فتنۃ

غبراء مظلمۃ ثم تتبع الفتن بعضها حتى یخرج رجل من

اہل بیتی یقال له المہدی فان ادر کتہ فاتبعہ وکن من

المہتدین﴾ (اخرجه الطبرانی

(الحادی: ج ۲ ص ۸۰، کتاب البرہان: ج ۲ ص ۶۱۱)

”حضرت عوف بن مالکؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا

(عنقریب) اندھیری رات کی طرح چھا جانے والا ایک فتنہ پٹا ہوگا،

اس کے بعد پے درپے فتنے نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے حتیٰ کہ

میرے اہل بیت میں سے مہدی نامی ایک شخص ظاہر ہوگا، اگر تم اسے

پاؤ تو اس کی اتباع کر کے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جانا۔“

(۳۱) ﴿حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی روایت﴾

آسمان سے ایک ہاتھ کا ظہور:

﴿عن الزهري قال اذا التقى السفیانی والمهدی للقتال
یومئذ یسمع صوت من السماء الا ان اولیاء اللہ
اصحاب فلان یعنی المهدی. قال الزهري وقالت
اسماء بنت عمیس ان امارۃ ذلك الیوم ان کفامن
السماء مدلاة ینظر الیها الناس﴾ (کتاب الفتن: ص ۲۳۷)

”امام زہری فرماتے ہیں کہ جب سفیانی اور امام مہدیؑ قال کے لیے آنے سامنے ہوں گے تو اس دن آسمان سے ایک آواز سنائی دے گی کہ اے لوگو! خبردار! اللہ کے دوست فلاں یعنی مہدی کے ساتھی ہیں۔ امام زہری کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت اسماء بنت عمیس نے فرمایا اس دن کی علامت یہ ہوگی کہ آسمان سے ایک لٹکا ہوا ہاتھ (ظاہر ہوگا جو) امام مہدیؑ کے لشکر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں گا اور لوگ بھی اس ہاتھ کو دیکھیں گے۔“

(۳۲) ﴿حضرت قرۃ المزنی کی روایت﴾

امام مہدیؑ کی مدت حکومت:

﴿عن قرۃ المزنی قال قال رسول اللہ ﷺ لتملئون
الارض جورًا وظلمًا فاذا ملنت جورًا وظلمًا بعث اللہ
رجلا منی اسمه اسمی واسم ابیه اسم ابی فیملها عدلا
وقسطا کما ملنت جورًا وظلمًا فلا تمنع السماء شیئا
من قطرها ولا الارض شیئا من نباتها یمکث فیہم سبعا

اوٹمانیا فان اکثر فتسعا ﴿ (الحادی: ج ۲ ص ۷۳)﴾
 ”حضرت قرۃ المرثیٰ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا
 تم زمین کو ضرور ظلم و ستم سے بھر کر رہو گے، چنانچہ جب ایسا ہو
 جائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو
 بھیجیں گے جس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام
 میرے والد کے نام پر ہوگا، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف
 سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، ان
 کے زمانے میں آسمان اپنا تمام پانی بہا دے گا اور زمین اپنی تمام
 نباتات اگل دے گی، وہ لوگوں میں سات یا آٹھ یا زیادہ سے
 زیادہ نوسال رہیں گے۔“

(۳۳) ﴿ حضرت قیس بن جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ﴾

امام مہدیؑ کے بعد قحطانی خلیفہ ہوگا:

﴿ عن قیس بن جابر الصدفی ان رسول اللہ ﷺ قال
 سیکون من اهل بیتی رجل یملاء الارض عدلا کما
 ملئت جورا ثم من بعده القحطانی والذی نفسی بیدہ
 ماہو دونہ ﴾ (الحادی: ج ۱ ص ۹۵)

”حضرت قیس بن جابر الصدفی سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا
 تم میں سے ایک شخص آئے گا جو
 زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم سے بھری ہو
 گی پھر ان کے بعد قحطانی ہوگا اور اس ذات کی قسم! جس کے قبضے
 میں میری جان ہے، وہ ان سے کم نہ ہوگا۔“

(۳۴) ﴿حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

بارہ خلفاء والی روایت:

﴿عن جابر بن سمرة عن رسول الله ﷺ انه قال

لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون اثنا عشر خليفة

كلهم تجتمع عليه الامة﴾ (الحادی: ج ۲ ص ۱۰۲)

”حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا یہ

دین ہمیشہ قائم رہے گا حتیٰ کہ بارہ خلیفہ ایسے ہو جائیں جن پر پوری

امت متفق ہوگی۔“

فائدہ:

علامہ سیوطی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے

فرمایا ہے کہ اس حدیث میں امام مہدی کے وجود کی طرف اشارہ ہے اور وہی بارہوی

خلیفہ ہوں گے کیونکہ گیارہ خلفاء کے بعد اب تک کوئی بارہواں خلیفہ ایسا نہیں آیا کہ اس کی

خلافت پر پوری امت مجتمع ہو سکی ہو۔

(۳۵) ﴿حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

دین کا مشلہ:

﴿عن ابی عبیدة بن الجراح رضی اللہ عنہ قال قال رسول

اللہ ﷺ لا يزال هذا الامر قائما بالقسط حتى يكون

اول من يثلمه رجل من بنی امیة﴾ (کتاب الختن: ص ۱۹۰)

”حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے

فرمایا دین کا یہ معاملہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا یہاں تک کہ بنی امیہ

میں سے ایک شخص سب سے پہلے اس کا مشلہ کرے گا۔“

یہ روایت وجود سفیانی پر دلالت کر رہی ہے اور خروج سفیانی علامت ہے ظہور مہدیؑ کی۔ گویا اس روایت سے بھی ظہور مہدیؑ کا ثبوت ملتا ہے۔

(۳۶) ﴿حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

دریائے فرات سے نکلنے والا خزانہ:

﴿عن عبد اللہ بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع ابي بن كعب فقال لا يزال الناس مختلفة اعناقهم في طلب الدنيا قلت اجل قال انى سمعت رسول الله ﷺ يقول يوشك الفرات ان يحسر عن جبل من ذهب فاذا سمع به الناس ساروا اليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس ياخذون منه ليذهبن به كله قال فيقتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون﴾ (مسلم: ۷۲۷۶)

”عبداللہ بن حارث بن نوفل کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب کے پاس کھڑا تھا کہ حضرت ابی فرمانے لگے طلب دنیا میں لوگوں کی گردنیں ہمیشہ مختلف رہی ہیں میں نے عرض کیا جی بالکل! پھر فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب دریائے فرات میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ جب لوگ یہ خبر سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے، وہاں موجود لوگ یہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو اس کے لیجانے کی چھوٹ دے دی تو لوگ یہ سارا ہی لیجائیں گے (اور ہمیں کچھ بھی نہ ملے گا) چنانچہ وہ اتنا قتال کریں گے کہ ہر سو میں سے ننانوے افراد قتل ہو جائیں گے۔“

(۳۷) ﴿حضرت ذومخبر رضی اللہ عنہ کی روایت﴾

رومیوں سے جنگ کا تذکرہ:

﴿عن حسان بن عطية قال مال مكحول وابن ابى زكريا الى خالد بن معدان، وملت معهم فحدثنا عن جبير بن نفيير عن الهدنة قال قال جبير انطلق بنا الى ذى مخبر رجل من اصحاب النبي ﷺ فاتيناه فساله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتفزون انتم وهم عدوا من ورائكم فتتصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذى تلؤل فيرفع رجل من اهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة﴾ (ابوداؤد: ۴۲۹۲)

”حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ مکحول اور ابن ابی زکریا، خالد بن معدان کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، خالد نے ہمیں حضرت جبیر بن نفیر کے حوالے سے صلح روم کے متعلق یہ حدیث سنائی کہ حضرت جبیر ایک مرتبہ مجھ سے فرمانے لگے آؤ! ذرا حضور ﷺ کے ایک صحابی ذی مخبر کے پاس چلتے ہیں چنانچہ ہم ان کے پاس پہنچے، جبیر نے ان سے صلح روم کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم عنقریب رومیوں سے امن و امان کی صلح کرو گے۔ اور ایک دشمن کے خلاف تم اور رومی جہاد کرو گے، تمہیں فتح، مال غنیمت اور سلامتی نصیب ہوگی پھر تم واپس لوٹ کر مرج ذی تلؤل مقام پر پڑاؤ ڈالو گے، اس موقع پر ایک عیسائی صلیب کو اونچا کر کے پکارے گا ”صلیب کی بجے“ مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو غصہ آئے گا اور وہ اس کو گرا دے گا اس موقع پر رومی عہد شکنی کریں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔“